


فقہ صادقؑ

تاریخ اور سازشوں کے آئینے میں

سید ذوالفقار علی زیدی



فقہ صادقؑ

تاریخ اور سازشوں کے آئینے میں

از قلم

ذوالفقار علی زیدی

الحمیر پبلشرز پاکستان - کراچی

کتاب کی شناخت

نام کتاب:

فقہ صادق (تاریخ اور سازشوں کے آئینے میں)

مؤلف:

ذوالفقار علی زیدی

نظر ثانی:

حجت الاسلام والمسلمین سید علی مرتضیٰ زیدی

کمپوزنگ:

ولایت علی آغا

ناشر:

الحرمین پبلشرز پاکستان کراچی

چھاپ خانہ:

عمار پرنٹرز پاکستان چوک کراچی

سال اشاعت:

۲۰۰۶ء

طبع:

اول

ملنے کا پتہ:

علی بکڈ پو، اے۔۸۴، عباس ٹاؤن، گلشن اقبال
ابوالحسن اصفہانی روڈ، کراچی پوسٹ بکس ۱۷۸۴۸

فون: 4641362

szazaidi_astore@yahoo.com

szazaidi52@hotmail.com

فہرست مضامین

| <u>صفحہ نمبر</u> | <u>مضمون</u> | <u>نمبر شمار</u> |
|------------------|--|------------------|
| ۴ | حرف تشکر | ۱ |
| ۵ | مذہب تشیع کے خلاف ایک عظیم سازش | ۲ |
| ۱۳ | عرض ناشر | ۳ |
| ۲۶ | سلسلہ کشف و انکشاف | ۴ |
| ۳۰ | علم اصول کی تدوین میں ائمہ معصومین کا کردار | ۵ |
| ۵۶ | آیۃ اللہ سید سعید اکیم طباطبائی سے مرجعیت کے بارے میں سوال | ۶ |
| ۶۵ | شیعہ علمی حوزوں میں علم فقہ کی تاریخ | ۷ |
| ۷۹ | ماخذ و مدارک | ۸ |
| ۸۲ | پیش حرف | ۹ |
| ۸۶ | رثاء محسن اکیم از نسیم امر و ہوئی | ۱۰ |

حرفِ تشکر

اس کتاب کا پہلا مضمون ہمیں مجمعِ جهانی شیعہ شناسی کے مدیر جناب حجۃ الاسلام والمسلمین آقای علی انصاری نیا کے توسط سے ملا، جسے ترجمہ کر کے ہدیہ ناظرین کر رہے ہیں۔ جس پر ادارہ محترم کا بیحد شکر گزار ہے۔

کتاب میں سب سے پہلے اس مقالے کو جگہ اس لیے دی گئی ہے کہ ہمارے قارئین اسلام دشمنوں کے عزائم سے واقف ہوں اور ان لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں جو دراصل اسلام دشمن قوتوں کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور ابلبیت سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، جو ان کی منافقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

ناشکری ہوگی اگر ہم ممتاز دانشور، عالم دین حجۃ الاسلام والمسلمین سید علی مرتضیٰ زیدی کا شکریہ ادا نہ کریں کیونکہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس کتاب کو پڑھا اور ہمیں ہدایات دیں اور اصلاح کی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔

مذہب تشیع کے خلاف ایک عظیم سازش

امریکہ میں ایک کتاب "A plan to divide and destroy the theology" شائع ہوئی ہے جس میں C.I.A کے شعبہ شیعہ کے اہم رکن Babwoodwords نامی سابقہ سربراہ کے دست راست ڈاکٹر مائیکل برانٹ کا تفصیلی انٹرویو شائع ہوا ہے۔ اس نے اپنے انٹرویو میں جھنجھوڑنے والے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے اور C.I.A کے بارے میں کہا کہ انہوں نے مالی فساد کے ذریعے نو سو ملین ڈالر کا بجٹ جو شیعوں کے خلاف کارکردگی کیلئے مختص کیا گیا تھا اس میں خرد برد کیا ہے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ C.I.A کے افسران نے کولمبیا اور افغانستان کے منشیات کے تاجروں سے بھی بڑی بڑی رقم لے کر ذاتی اخراجات پر خرچ کی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر مائیکل برانٹ نے مذکورہ شعبے میں طویل مدت تک کام کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مالی اور انتظامی خرابی کی وجہ سے اسے اپنے منصب سے برطرف کیا گیا تھا۔ اس لئے اس نے انتقاماً محرمانہ رازوں سے پردہ اٹھایا۔

ہم یہاں اس طویل انٹرویو کے چند نکات پیش کرتے ہیں تاکہ شیعہ ان علی اپنے خلاف کی جانے والی سازشوں سے آگاہ ہو جائیں۔ ڈاکٹر مائیکل برانٹ کہتا ہے کہ عالم اسلام صدیوں پہلے مغربی حکومتوں کے زیر تسلط تھا۔ اگرچہ گزشتہ صدی میں بہت سارے اسلامی ممالک آزاد ہو گئے ہیں، لیکن ان کے استقلال و آزادی پر مغربی ثقافت، سیاست اور تعلیم مسلط رہی ہے۔ خاص طور پر ان ممالک کا سیاسی نظام ہمارے کنٹرول میں تھا اور ان ممالک کی آزادی کے بعد بھی انہوں نے اپنی تہذیب کو سکھانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی بلکہ مغربی نظام کو اپنے معاشروں پر رائج رکھا۔

وہ مزید کہتا ہے کہ انقلاب اسلامی ایران نے ۱۹۷۸ء میں ہماری سیاست کو زیادہ نقصان پہنچایا۔ پہلے ہم خیال کرتے تھے کہ یہ حالات شاہ ایران کے انتہائی غلط، ناقص، ظلم و جبر اور پریشان کرنے والی سیاست کے خلاف ملت ایران کا فطری رد عمل ہے جس سے مذہبی عناصر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں امید تھی کہ شاہ ایران کے برطرف ہونے کے بعد ہم اپنے ایجنٹوں کو استعمال کر کے اپنی سیاست کو دوبارہ دوام بخشیں گے۔

پہلے دو تین سالوں میں امریکہ کی سخت ناکامی کے بعد سفارت امریکہ کے پکڑے گئے افراد اور صحرائے طبرس میں ہوائی جہازوں کی نابودی اور اسلامی بیداری کی زیادہ نشوونما کے بعد، مغرب سے نفرت اور اس کے بعد انقلابی جوش و خروش کے اثرات کا ظہور مختلف ملکوں خصوصاً لبنان، عراق، کویت، بحرین اور

پاکستان میں ہوا تو C.I.A کے اعلیٰ عہداروں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں انگلینڈ کی خفیہ سروس کے نمائندے Mi6 نے بھی شرکت کی (کیونکہ انگلینڈ کا ان ممالک کے بارے میں تجربہ زیادہ ہے)۔ اس میٹنگ میں معلوم ہوا کہ ایران کا انقلاب شاہ ایران کی ناقص سیاست کے فطری رد عمل کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ باطن میں اس کے کچھ اور اسباب اور دوسرے حقائق بھی موجود تھے۔ ان اسباب میں سے اہم ترین سبب ایران کے مذہبی مراجع کا ایران کے سیاسی نظام کی رہبری حاصل کرنا اور پیغمبر اسلام کے نواسہ حسین کی ۱۴۰۰ سال قبل شہادت کا واقعہ ہے جس کی یاد میں شیعہ کئی صدیوں سے نہایت غم و اندوہ کے ساتھ عزاداری کرتے ہیں۔ یہی دو مرکزی ستون ہیں جن کی بنا پر شیعہ مسلمان دوسرے مسلمانوں سے زیادہ متحرک اور فعال نظر آتے ہیں۔ اس میٹنگ میں طے پایا کہ شیعہ اسلام کے مطالعہ کے لئے اور اس پروجیکٹ پر عمل درآمد کے پروگرام بنانے کیلئے ایک الگ اور مستقل شعبے کی بنیاد ڈالی جائے اور اس کیلئے سب سے پہلا بجٹ چالیس ملین ڈالر (دو ارب چالیس کروڑ روپے) منظور ہوا۔ مائیکل برانٹ کے مطابق اس پروجیکٹ کو تکمیل تک پہنچانے کیلئے تین مرحلے زیر نظر رکھے گئے:

۱۔ اطلاعات کا جمع کرنا data collection اور مکمل اعداد و شمار کی جمع آوری۔

۲۔ مختصر وقت کے مقاصد short term target شیعہوں کے خلاف

پروپیگنڈے کرنا اور شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دیکر فسادات پیدا کرنا اور سنی اکثریت کے ساتھ ان کی لڑائی کرانا تاکہ ان کی توجہ امریکہ کی طرف مبذول نہ ہو سکے۔

۳۔ طویل مدتی اغراض و مقاصد long term target۔ تشیع کو ختم کرنے کیلئے طویل مدت کے اغراض پر عملدرآمد کے پہلے مرحلے میں پوری دنیا میں محققین بھیجے گئے۔ ان میں سے کچھ افراد پاکستان بھی بھیجے گئے جن کے نام مضمون میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر شو میل کا نام ہے۔ انکا کام کراچی کی عزاداری کے بارے میں تحقیق کرنا تھا۔ انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور کراچی کے ایک شیعہ نشین علاقے رضویہ سوسائٹی میں بعنوان paying guest مقیم تھے اور اسی طرح ایک جاپانی نکومہ نامی عورت نے بھی بلوچستان کے کوئٹہ نامی شہر میں ہزارہ قوم کے شیعوں کے درمیان رہ کر شیعہ شناسی کے موضوع پر اپنی ڈاکٹریٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

ابتدائی اور سرسری جائزہ کے طور پر درج ذیل تین سوالات پوچھے گئے:

۱۔ شیعہ حضرات دنیا کے کن علاقوں میں رہتے ہیں اور کتنی تعداد میں ہیں؟ اور انکے عقیدتی اور معاشرتی حالات کیا ہیں اور انکے باہمی اختلافات کیا ہیں؟

- ۲۔ شیعوں کے داخلی و اندرونی تضادات کو کس طرح متحرک کیا جاسکتا ہے؟
 ۳۔ شیعوں اور سنیوں کے درمیان موجودہ اختلافات کس طرح بڑھائے جاسکتے ہیں؟

ڈاکٹر مائیکل برانٹ کہتا ہے: ہم نے بہترین خطوط پر تمام ممالک کے شیعوں کے بارے میں اطلاعات جمع کرنے کے بعد مندرجہ ذیل نکات حاصل کئے:

- ۱۔ شیعوں کے مراجع تقلید اس مذہب کی طاقت کے حقیقی سرچشمہ ہیں جو ہر زمانے میں دین کی حفاظت کرتے ہیں اور اسکے اصول پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ انہوں نے تشیع کے طویل تاریخ میں کبھی بھی غیر اسلامی حاکم کی بیعت نہیں کی۔ ایک مرجع (آیۃ اللہ شیرازی) کے فتویٰ کے سبب انگریز ایران میں داخل نہ ہو سکے۔

نیز انہوں نے کہا: شیعوں کا عظیم ترین علمی مرکز عراق میں تھا جسے صدام اپنی تمام کوششوں کے باوجود نہ خرید سکا بلکہ اسے بند کرنے پر مجبور ہوا جو ابھی تک ویران ہے۔ دنیا کے دوسرے علمی مراکز نے وقت کے حکام کے ساتھ ہم آہنگی کی ہے، جبکہ ایران کے علمی مرکز قم نے ظالم شہنشاہیت کے تخت کو الٹ دیا اور ایک سپر پاور امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ لبنان میں آیۃ اللہ موسیٰ صدر کی تحریک نے انگلینڈ، فرانس اور اسرائیل کی افواج کو بھاگنے پر مجبور کیا اور اسرائیل کی تاسیس کے بعد، ایک بہت بڑی مزاحمت حزب اللہ کی شکل میں

وجود میں آئی۔ ان تمام معلومات کی بنا پر ہم اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ براہ راست شیعوں کو نقصان پہنچانا اور اپنی پیروی کروانا بہت مشکل ہے۔ لہذا یہ طے پایا کہ پس پردہ رہ کر کام کرنا چاہئے اور ہم نے انگلینڈ کے پرانے فارمولے (تقسیم کرو اور حکومت کرو) کو ایک دوسرے فارمولے (تقسیم کرو اور ختم کرو) میں بدل کر اس پر عملدرآمد شروع کیا۔

انہوں نے یہاں پر لمبی مدت کے مقاصد کا اعلان کیا۔ ہم ان مقاصد کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں:

جن افراد کو شیعوں سے اختلاف ہے۔ ان کو شیعوں کے خلاف منظم اور مضبوط کر کے انکے ہاتھوں شیعوں کے کافر ہونے کے تصور کو پھیلانا ہے اور منفی پروپیگنڈوں کے ذریعے شیعوں کو عام مسلمانوں کے معاشرے سے الگ تھلگ کیا جائے۔

انہوں نے لکھا ہے کہ یہ منصوبہ بھی طے ہوا کہ جاہل اور کم پڑھے لکھے افراد کو جمع کر کے انکی تقویت کریں جب انکی تعداد مناسب ہو جائے تو شیعوں کے خلاف مسلح جہاد شروع کرادیں اور دوسری طرف بڑی ہوشیاری کے ساتھ ایک محاذ شیعوں کے مراجع کے خلاف کھولیں جو انکے درمیان (ففتھ کالم) بن جائیں اس طرح شیعیت کا چہرہ مسخ ہو جائے گا اور نوبت یہ آئے گی کہ ہر خاص و عام میں غیر مقبول ہو کر رہ جائے گا اور انکے مراجع عام لوگوں میں نفرت کا نشانہ بنیں گے۔

ڈاکٹر مائیکل برانٹ کہتا ہے: شیعہ واقعہ کربلاء کی یاد میں جمع ہو کر عزاداری کے مراسم برپا کرتے ہیں۔ ایک آدمی مجلس پڑھتا ہے اور واقعہ کربلا بیان کرتا ہے اور سامعین اسکو سنتے ہیں اور مجلس کے بعد جوان سینہ زنی اور نوحہ خوانی کرتے ہیں یہ ذکر اور سامعین ہمارے لئے بہت اہم ہیں کیونکہ انہی عزاداری کی مجالس سے شیعوں میں جوش و خروش اور آزادی کی چاہت اور باطل کے خلاف جنگ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لہذا ہم نے مجلس پڑھنے والوں، مجالس کے بانیوں اور سامعین کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لئے کئی بلین ڈالرز کی رقم مختص کی ہے اور یہ کام اس طریقے سے انجام پاتا ہے کہ پہلے مرحلہ میں ہم شیعوں میں سے ایسے افراد تلاش کرتے ہیں کہ جو اثر و نفوذ والے ہونے کے ساتھ شہرت اور دولت کے دلدادہ ہوں نیز اپنے عقائد میں کمزور ہوں تاکہ ہم ان کے ذریعے عزاداروں میں نفوذ پیدا کریں۔ ان افراد کے ذریعے مندرجہ ذیل کام انجام دلوائے جاسکتے ہیں:

- ۱۔ ایسے مرثیہ خوانوں کی سرپرستی کرنا جو شیعوں کے حقیقی عقائد سے بے خبر ہیں۔
- ۲۔ شیعوں میں ان افراد کو تلاش کر کے انکی مالی مدد کریں جو اپنی تحریروں (۱) کے ذریعے شیعوں کے عقائد اور مراکز کو نشانہ بنا سکیں اور تشیع کی بنیادیں منہدم کر سکیں اور لوگوں کو یہ باور کرا دیں کہ مذہب شیعہ مجتہدین کا ساختہ و پرداختہ ہے جس کے ذریعے یہ لوگ اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔

۳۔ عزا داری میں ایسے رسومات کی حفاظت یا اضافہ کرنا جو شیعوں کے عقائد کے ساتھ ٹکراؤ رکھتے ہوں۔ (۱)

۴۔ عام معاشرے میں عزا داری کا چہرہ اس طرح پیش کیا جائے کہ جگہ جگہ عزا داری کے مراسم کی وجہ سے یہ محسوس ہو کہ تشیع ایک جاہل اور توہم پرست گروہ ہے اور محرم میں عام لوگوں کے لئے بہت ساری مشکلات پیدا کرتا ہے ایسے پروگراموں کے لئے خاصی بڑی رقم خرچ کی جاتی ہے اور مرثیہ خوانوں کی خوب تشویق کی جاتی ہے اس طریقہ سے تشیع جو ایک منطقی قوت و طاقت کا مالک مذہب ہے، محض ایک درویشی مذہب میں تبدیل ہوتا ہے اور اندر سے کھوکھلا ہو کر رہ جاتا ہے اور اس طرح سے عوام الناس کے درمیان نفرت اور خود شیعوں میں فرقہ بندی وسعت پاتی ہے۔ آخر میں ان پر الگ سے تیار کی ہوئی جہادی طاقتوں کے ہاتھوں حملہ کرا کے انہیں نابود کیا جاسکتا ہے۔

۵۔ تشیع کی مرجعیت کے خلاف تحقیق کر کے بہت ہمارے مطالب جمع کئے جائیں اور اسکے بعد یہ مطالب زر پرست اور گمنام لکھنے والوں کو دیئے جائیں اور ان کی نشر اشاعت کیلئے خوب پیسے خرچ کئے جائیں اور یہ لڑیچر (۲) مداحوں، مرثیہ خوانوں، ذاکروں اور جاہل ماتمی گروہوں کے ہاتھوں شیعہ عوام میں مخفی طور پر پھیلانے جائیں۔ اس طرح آخری مرحلہ میں شیعہ خود شیعوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ۲۰۱۰ء تک مرجعیت یا دوسرے الفاظ میں تشیع

کا مرکز ختم ہو جائے گا اور باقی ماندہ شیعہ لوگ پراگندہ و متفرق ہو جائیں گے۔
اس طرح مرجعیت جو آج ہماری حکومتوں کے سامنے تشیع کے دفاع کا ایک محکمہ
بند تھا خود شیعوں کے ہاتھوں ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔

ڈاکٹر مائیکل برانٹ آخر میں کہتا ہے: ”ان پروگراموں میں سے بعض
پروگراموں پر عمل ہو رہا ہے اور بعض دوسروں کو بھی آئندہ عملی جامہ پہنایا جائے
گا۔“

آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ فکر کریں اور توجہ دیں کہ سلسلہ کشف
وانکشافات جیسی کتابیں لکھ کر یہ لوگ کن افراد کے مقاصد کو عملی جامہ پہناتے
ہیں؟ ایسے لٹریچر کو شائع کرنے والے اداروں خصوصاً المدار جعفری بکڈ پوجیسے
لوگوں کو ملت پہچان لے۔

ترجمہ: سید ذوالفقار علی زیدی

مدیر الحرمین دارالترجمہ کراچی پاکستان

پوسٹ بکس 17848 پوسٹ کوڈ 75300 گلشن اقبال کراچی

szazaidi_astore@yahoo.com

szazaidi52@hotmail.com

عرض ناشر

آپ نے گذشتہ صفحات میں مذہب حقہ کے خلاف ہونے والی سازشوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھا اور دشمنوں کی سازشوں سے آگاہی حاصل کی۔ ہمارے مذہبی مستحکم ستون مرجعیت اور عزا داری کے بارے میں دشمنوں کے خیالات اور عزائم کو بھی جان لیا، جنہوں نے عہد کر رکھا ہے کہ ۲۰۱۰ء تک مرجعیت کو ختم کریں اور عزا داری میں بے بنیاد مراسم کو داخل کر کے اسے بے مقصد بنائیں۔ نیز دوسرے پڑھے لکھے افراد کے سامنے ان مراسم کو مضحکہ خیز بنا کر پیش کریں۔ اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اگر آپ ۱۳ رجب اور ۳ شعبان، ۱۵ شعبان کو خوشی منانے کے انداز سے یقین حاصل کر سکتے ہیں جو اہلبیت کی تعلیمات سے بالکل دور ہیں، سیٹیاں اور تالیاں بجانا کفار مکہ کا طریقہ تھا، جس کی قرآن نے ”الاکماء و تصدیہ“ کہہ کر مذمت کی اور حال ہی سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ فقہائے اہلبیت اس سے بے خبر نہیں۔

افتح حوزہ کے شمارہ ۴۴ مورخہ ۲۸ شہر یور میں مرجع مسلمین فقیہ اہلبیت

حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ محمد فاضل لنکرانی دام ظلہ العالی نے ۱۵ شعبان کے مراسم کی مناسبت سے ایک بیان دیا تھا جس میں آپ نے ملت کے غیور نوجوانوں کو اس طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ ”نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ خرافات کے ذریعے اسلام کا حقیقی چہرہ بگاڑنے سے محفوظ رکھیں۔ ایسے اعمال بجالائیں جو اس ہستی کے نزدیک بھی قابل قبول ہو، جس کا یوم ولادت اس روز مناتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو دشمنوں کو طعنے دینے کا موقع فراہم کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے نوجوانوں کا فریضہ ہے کہ اسلام کے حقیقی اور اصیل معارف سے آشنا ہوں تاکہ انتظار کی حقیقت تک رسائی حاصل کر سکیں۔“

درد دل رکھنے والے جید علماء ملت کے غیور افراد کو ان کے فریضہ سے آگاہ کرتے ہیں مگر دوسری طرف ہمارے پاس نئے نئے رواج پانے والے مراسم اور اپنے مراجع کے بارے میں منافقوں کے لٹریچر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دشمن اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے؟ اور ہم کس قدر خواب غفلت میں ہیں۔ دشمن نے ایسے افراد کو ہی شیعوں کے خلاف چنا ہے جو ہمارے معاشرے میں شیعہ ہونے کے ناطے پہچانے جاتے ہیں، جنہوں نے جاہلانہ تحریروں کے ذریعے دشمن کے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے اور شاید چند ایک کمزور ایمان والے مومنوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ کچھ کتابیں اس موضوع پر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل

رہی ہیں۔ جنہیں آپ سلسلہ ”کشف و انکشافات“ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس موضوع پر الحرمین پبلشرز کا دوسرا کتابچہ ملاحظہ فرمائیں گے جس میں ان منافقین کی زبان میں ان کو جواب دیا گیا ہے۔ جو عنقریب آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، جبکہ نماز جمعہ احادیث کے آئینے میں پہلے شائع ہو چکا ہے۔

حضرات معصومین علیہم السلام کے بعد حضرات علماء و فقہاء نے دین حقہ کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا اور دین حقہ کو اہلبیت عظام کی تعلیمات کی روشنی میں دوسروں تک پہنچایا۔ ہمارے علمائے کرام دراصل ہم تک حضرات اہلبیت عظام کے ارشادات پہنچانے کے امین ہیں۔ جنہوں نے کمال دیانتداری کے ساتھ اپنا فریضہ بڑے نامساعد حالات میں پورا کیا۔ اور اس راہ میں بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ ہمارے ان علماء کی دو قسمیں ہیں، ایک تو صرف حدیث اور خبر کے راوی ہیں اور دوسرے حدیث کی روایت کے ساتھ قرآن، حدیث، عقل اور اجماع کی روشنی میں احکام شریعت کا استنباط کر کے حکم شرعی عوام کے لیے بیان کرتے ہیں۔ جس کے بارے میں قرآن کریم میں یوں بیان ہوا:

”وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون“

(سورہ توبہ، آیت ۱۲۲)

”تمام مومنوں پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سب جا کر علم دین کی سمجھ حاصل

عرشِ نبی ﷺ

کریں، بلکہ ہر قبیلے اور قوم میں سے ایک ایک گروہ جا کر علم دین کی فہم حاصل کیوں نہیں کرتا کہ وہ جب علم سیکھیں تو واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں۔ شاید اس طرح وہ محفوظ رہیں۔“

اس طرح ہمارے علمائے کرام کی ان دو قسموں میں سے ایک ”علمائے اخباری“ اور دوسرے کو ”علمائے اصول“ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ دونوں علما ہمارے محسن ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ دینی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے میں گرانقدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔

بعض افراد کا کہنا ہے کہ ہم صرف حضرات معصومین کی اخبار سے اپنے لیے ہدایت لے لیں، اس لیے ہمیں کسی فقیہ کی ضرورت نہیں، جس کی تقلید کریں۔ لیکن اس سلسلے میں چند خامیاں اور کمزوریاں ہیں، جس کی وجہ سے اس روش پر چل کر ایک مومن اپنی تکلیف شرعی سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا اور یہ خامیاں اور کمزوریاں یوں ہیں:

۱۔ احکام فقہی کے بارے میں احادیث اور اخبار جو حضرات سے ہم تک پہنچ چکے ہیں، بعض اوقات ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں۔ ایک حکم کے بارے میں مختلف احادیث یا اخبار موجود ہیں۔ ایک عام قاری ان میں سے صحیح اور غلط کا انتخاب نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے بھی کافی علم کی ضرورت ہے جس کا ایک عام آدمی حامل نہیں ہو سکتا۔

۲۔ ایسی مختلف احادیث اور اخبار موجود ہوں تو ہر شخص اپنی ذاتی پسند والی

حدیث کو اختیار کرے گا اور جو اسے ناپسند ہو اسے ترک کرے گا۔ اس طرح حکم خدا کی پیروی میں انسان کی ذاتی پسند اور ناپسند کو دخل ہو جائے گا۔ جبکہ خدا کا حکم انسان کی ذاتی پسند اور ناپسندی سے بہت بلند اور برتر ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے: "عسى ان تحبوا شيئا و هو كره لكم و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم"

۳۔ اصولی علما کے ہاں روایت کے ساتھ حدیث اور خبر کے ایسے ماہر ترین فرد کا وجود ہوتا ہے جو اس خبر، حدیث اور روایت کو قرآن کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے روایات کو درایت کے میزان پر پرکھ کر اس کے منابع کی روشنی میں حکم شرعی بیان کرتا ہے۔ یعنی کتاب و حدیث کے ساتھ آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں ایک روکنے ٹوکنے والا بھی ہوتا ہے۔ جبکہ اخباری افراد کے نزدیک کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ صرف احادیث اور اخبار ہیں جن سے وہ براہ راست خود رہنمائی حاصل کرنے کے دعویدار ہیں۔ جیسے کہ بہت پہلے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بلند ہوا تھا۔ جبکہ حقیقی طور پر ایسا ہونا ناممکن ہے کیونکہ گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ اخبار و احادیث میں جعلی، ضعیف، غریب اور بہت ساری احادیث شامل ہیں، جن میں سے حقیقی حکم کو اخذ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔

ایک اور قباحت بھی اس سلسلے میں یہ ہے کہ احادیث اور روایات خاموش ہیں اور روکنے ٹوکنے کا کوئی تصور یہاں نہیں، اس لیے مختلف باطل

قوتوں کو دخل دینے کا موقع ملتا ہے، جبکہ اصولی گروہ کے ہاں اس کا کوئی امکان نہیں کیونکہ جیسے ہی کوئی باطل دخل انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے فقیہ اس کے باطل ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ خطیب آل محمد حضرت علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم نے ایک مختصر جملے میں بہت بڑی بات کہی ہے: ”جب دو چیزیں سامنے ہوں، ایک ٹوکنے والی اور دوسری نہ ٹوکنے والی تو بت پرستی کی عادت نہ ٹوکنے والی کو اختیار کرنے پر مجبور کرے گی۔“

مثال کے طور پر ایک ”باطل“ بے لیاقت نے ایران کے حوزہ علمیہ مشہد میں جا کر اپنے آپ کو طالب علم ظاہر کیا اور تھوڑے عرصے کے بعد جب اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس قابل ہوں کہ اپنی حقیقت ظاہر کروں (جبکہ اسے مراجع کی اصل طاقت اور قوت کا اندازہ نہیں تھا) تو اس نے ایک مرجع کے خلاف اقدام کیا اور اپنی حقیقت بتادی تو فوراً ہی انجام کو پہنچے اور ایسے ہی راندہ ہوئے جیسے ابلیس کو لعین رجیم کہہ کر راندہ کیا گیا تھا۔

وہاں مردود ہونے کے بعد پاکستان میں پہنچ کر اس نے چند سادہ لوح مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اس کی جہالت کی انتہا دیکھیں کہ اس نے ایک ضخیم کتاب بھی نقل کر کے چھپوادی اور خود کو ”مرجع الاخبارین“ کا لقب دے کر اخباریوں کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اخباری وہی گروہ ہے جو کسی کو مرجع نہیں مانتا، اگر کسی کو مرجع مانے تو وہ اہل تقلید بنیں گے، اخباری نہیں رہیں گے۔

اپنی علمی استعداد کی طرف نظر ڈالے بغیر دعویٰ کر بیٹھے جو اس کی حماقت اور جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دراصل لوگ اپنی جہالت پر نظر نہیں ڈالتے بلکہ یہ فرض کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے تو اس قدر ہم لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر یہ ظلم پھلتا پھولتا نہیں اور خدا ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں رسوا کرتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اس شخص نے امام مہدتی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تعجب ہے کہ بعض شیعہ افراد اس کے باوجود بھی اسے ابھی تک شیعہ سمجھتے ہیں۔

یہاں میں ایک اور نکتے کی طرف قارئین کو متوجہ کروں کہ مذہب حقہ کو قبول کرنے والے متعدد افراد نے مذہب حقہ کو نفع پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچایا ہے۔ بہت کم افراد ہیں جنہوں نے خود فیض حاصل کیا ہے اور مذہب حقہ کو قبول کرنے کے بعد مذہب کے لیے بھی باعث نفع ہوئے ہیں، مگر یہ صرف وہی لوگ ہیں جنہوں نے مذہب حقہ کے عقائد کے ساتھ فقہ اہلبیت کو بھی قبول کیا ہے۔ فقہ اہلبیت کی عظمت کو صرف اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ایک کتاب ”المعجم فی فقہ السلف“ مکہ مکرمہ سے چھپی ہے اس کے مولف جامعہ ام القرئی کے ایک استاد محمد المنصر الکتانی ہیں۔ تمام گروہوں کی فقہ کو بیان کرنے کے بعد فقہ اہلبیت کا ذکر کرتے ہوئے اعتراف کرتے ہیں کہ ”فقہ عترت تک رسائی حاصل کرنا علم و ہدایت کے حصول میں کامیابی اور گمراہی سے نجات ہے اور کتاب اللہ کے ساتھ ملکر یہ وسیلہ ہدایت اور جنت میں جانے

کے لیے محفوظ راستہ ہے۔“

جنہوں نے فقہ اہلبیت کو قبول نہیں کیا بلکہ اپنی سابقہ بے بنیاد اور قیاس پر مبنی فقہ کو ہی فقہ جعفریہ سمجھنے لگے اور فقہ اہلبیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے مذہب جعفریہ کو نقصان پہنچایا۔ اس کی روزمرہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ پنجاب میں ایسے ہی افراد نے مذہب جعفریہ کے پیروکاروں کو بانٹ دیا اور ان کی اجتماعی قوت کم کر کے اپنے بیرونی آقاؤں سے داد تحسین لے لی ہے۔ اگر آپ نے کسی مذہب قبول کرنے والے کی سچائی پر کھنی ہے تو دیکھیں کہ یہ شخص فقہ اہلبیت سے کس حد تک وابستگی رکھتا ہے۔

کراچی میں جس بے لیاقت کا ہم نے ذکر پہلے کیا ہے اس کی کتاب ”الرسالۃ العلمیہ فی احکام اخبار المعصومین“ کو بنیاد بنا کر ایک اور منافق نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے لیے چھتری بن کر ان کی کتب کے ایک طویل سلسلے ”کشف و انکشافات“ کو شروع کر رکھا ہے اور صاحبانِ ایمان کو دھوکہ و فریب دینے میں مشغول ہے۔ انشاء اللہ مستقبل قریب میں سارے حقائق سامنے آئیں گے اور انہیں اپنے کرتوت کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔

اخباری سلسلے میں یہی بات تکلیف دہ ہے کہ اس میں اباطیل کا بہت جلد عمل دخل ہوتا ہے اور ایسے لوگ جنہیں علم سے کوئی واسطہ نہیں اپنی لفاظی اور قدرت زبان کی بنا پر بڑے بڑے علما پر بھی اعتراض کرنے سے نہیں چوکتے اور اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتے ہیں۔

اس طرح بعض جاہلوں کو عارضی طور پر دھوکہ دیتے ہیں اور خود بھی بے آبرو ہو کر رہ جاتے ہیں اور وہ یہ سب کچھ اخباری ہونے کی چھتری تلے کرتے ہیں ورنہ اگر واقعاً کوئی عالم ہو جیسے میں اپنے ملک میں نام لوں تو ایک عالم علامہ امداد حسین کاظمی اعلیٰ اللہ مقامہ (جو اخباری تھے) خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے پوری ملت پر ان کا احسان اور قوم ان کی علمی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن چند جاہل شہرت کے دلدادہ علما جیسی باتیں کر کے خود عالم ہونے کے دعویدار ہوتے ہیں تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور چند جاہلوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی خامی اور کمزوری اخباری سلسلے میں ہے۔ جیسے کے پہلے بیان ہوا ”بے لیاقت“ شخص نے بھی اسی چھتری کو استعمال کیا، مگر خداوند عالم نے اسے رسوا کر کے رکھ دیا۔ اب انہیں کی کتاب کو بنیاد بنا کر کشف و انکشاف کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ان کتب کے بطلان پر کہنے کی کچھ ضرورت نہیں کیونکہ ان کی بنیاد ہی ایک باطل شخص کے افکار پر رکھی گئی ہے جس کا اعتراف انہوں نے اپنی ایک کتاب کے مقدمے میں کیا ہے۔

خشت اول چوں نہد معمار کج

تا ثریا می رود دیوار کج

اسی خامی کی طرف اہل ایمان کو متوجہ کرنے کے لیے سطور زیر تحریر کی گئی ہیں کہ چند ایسے جہلاء اخباری ہونے کی چھتری کے سہارے دین حقہ کے خلاف دشمنوں کے آلہ کار بن کر مصروف عمل ہیں۔ ہم نے اس مختصر رسالے

میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اجتہاد، مجتہد، فقہ، فقیہ جیسی اصطلاحات خود حضراتِ آئمہ کے دور اور زمانے میں خود حضراتِ آئمہ کے حکم سے وجود میں آئی ہیں، جیسے ابان بن تغلب اور مسلم بن ثقفی کی روایت وغیرہ سینکڑوں حدیثیں اس کی شاہد ہیں، مگر ان تمام سے بے خبر افراد جنہیں علم و فضل سے دور کا بھی واسطہ نہیں صرف بیرونی ڈالروں کو ہضم کرنے کے لیے علما کے خلاف باتیں اچھا کر خود عالم نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مومنین کو چاہیے کہ ایسے بے دین، موقع پرست، دین فروش افراد سے ہوشیار رہیں اور ایسے علما کی طرف رجوع کریں جنہوں نے کم از کم اپنی زندگی کا ایک حصہ علم دین کو سمجھنے کے لیے خرچ کیا ہو۔ ایسے موکی مینڈکوں سے پرہیز کریں جو ایک خاص موسم میں اپنے مخصوص مفادات کے حصول کے لیے ٹراتے رہتے ہیں اور ان کی منافقت کا یہ عالم ہے کہ انہیں دین کے ابتدائی مسائل تک کا علم نہیں ہے۔

یہ کتاب چند مقالوں پر مبنی ہے جو مطلوبہ چند مفاہیم کی تشریح کے لیے ضروری تھے۔ سب سے پہلے ”شیعوں کے خلاف عالمی سازش“ کے عنوان سے ایک مقالے کو جگہ دی ہے جو ہمیں مجمعِ جهانی شیعہ شناسی کے ڈائریکٹر جناب حجۃ الاسلام والمسلمین الشیخ علی انصاری نیا کے ذریعے ملا تھا۔ جس کی تفصیل اور مقاصد آپ اس مقالے کے ذریعے جان سکتے ہیں، جو ہم سب کو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا مقالہ عرضِ ناشر کے نام سے ہے جسے آپ پڑھ رہے ہیں جو آپ کو اس رسالے کے مندرجہ جات اور مقاصد سے نیز

اس کی تفصیل سے آگاہ کرے گا۔

تیسرا مقالہ سلسلہ کشف و انکشافات کے نام سے ہے جو کراچی میں چھپنے والی چند کتب اور ان کے مصنف () اور ان کتب کے غرض و غایت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہے تاکہ صاحبان ایمان منافقوں اور دشمنان اسلام کے پروپیگنڈہ کا شکار نہ ہوں۔

چوتھا مقالہ اسلام میں علم اصول فقہ کی حیثیت کے بارے میں ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ علم اصول فقہ، فقہ اسلامی کے لیے قواعد و ضوابط کا ایک مجموعہ ہے جس کے ذریعے فقہی احکام کے بیان اور فتویٰ میں غلطی کا امکان کم سے کم رہتا ہے۔ اس علم کی تدوین و ترتیب حضرات صادقین علیہما السلام کے عہد میں زیادہ سے زیادہ ہوئی کیونکہ اس عہد میں ان دونوں حضرات کو اطمینان کے ساتھ علوم دینی کا پرچار کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملا، ان دونوں حضرات کے زمانے میں بنی امیہ کی حکومت کمزور ہوئی اور بنی عباس کی حکومت اپنے پنجے گاڑنے میں مصروف تھی جبکہ اس دور سے پہلے حضرات ائمہ حکمران گروہ کی طرف سے کسی جانے والی اجتہاد میں ان کی کمزوریوں اور غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اسلام کا حقیقی حکم بیان فرماتے تھے۔

پانچواں مقالہ اجتہاد اور مرجعیت کے بارے میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید سعید الحکیم کی طرف سے چند سوالات کے جوابات پر مبنی ایک کتاب ”جول المرجعیة“ سے ماخوذ ہے۔ جس میں آپ نے واضح فرمایا ہے کہ

حضرات صادقین نے اپنے دور میں اپنے چند صحابہ کو فتویٰ دینے کی ترغیب دی اور فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ تم مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو فتویٰ دو۔

احقاق حق کے لیے حضرات معصومین کی تعلیمات کی روشنی میں یہ مختصر سا رسالہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ عام مومنین کے لیے راہ حق واضح رہے اور منافقوں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہیں۔

چھٹا مقالہ حوزہ ہائے علمی کی تاریخ اور ان کے نصاب اور حوزوں کی مختصر سی تاریخ پر مشتمل ہے۔ جس میں دور صادقین سے آج تک کے عالم تشیع کے عظیم مراجع کرام کی ایک فہرست بھی شامل کی گئی ہے۔

اپنے مدعا کو تفصیل کے ساتھ ایک مقالے میں بیان کرنا ناممکن نظر آیا تو مجبوراً چند مقالوں کی صورت میں بیان کرنا پڑا تاکہ زیادہ واضح ہو کر مدعا قارئین تک پہنچ سکے۔

خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ اس ادنیٰ سی کوشش کو قارئین کے لیے مفید قرار دے اور حضرات صادقین علیہم السلام کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل ہو۔

(آمین)

سلسلہ کشف و انکشاف

کشف و انکشاف کے چوتھے مرحلے میں چہرے سے نقاب اتر گیا! جو لوگ ان کے بارے میں شک رکھتے تھے، انہیں یقین ہو گیا کہ نقاب کے پیچھے ایک دشمن اہلبیت کا چہرہ ہے، جس نے محبت اہلبیت کا منافقانہ روپ دھار رکھا ہے۔ اب اس کی منافقانہ مواد پر مبنی تضادات بھری کتابوں میں ایک اور کا انکشاف ہوا جو اس کے تضادات کا پردہ ہٹا دیتی ہے ("کشف التصاد" نامی کتاب مراد ہے)۔ کتاب خود اسم با مسلمی ہے کیونکہ قاری جب اس کتاب کے ملنے کے پتے پر نظر ڈالتا ہے تو اسے حقیقت کے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی کتب یعنی کشف منافقت کے ڈانڈے کہاں سے ملتے ہیں اور کن آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے؟

قارئین سے گزارش ہے کہ آپ اردو بازار جانے کی زحمت کریں اور ضیاء القرآن پبلی کیشنز یا قرآن محل کی دکان پر پہنچ کر ان سے وہ کتاب طلب فرمائیں جو اہل تشیع کے باہمی معاملات پر بحث کرتی ہے تو آپ کو خوشی خوشی

ایک خاص مسکراہٹ کے ساتھ کتاب دی جائے گی اور آپ کے سو روپے ذبح ہو جائیں گے۔ کتاب پڑھتے جائیں اور اس کے لکھنے والے سے برأت کرتے جائیں۔ دراصل محبت اہلبیت کے دعوے کے پس پردہ یہ لوگ نماز جمعہ کے خطبوں میں اہلبیت کرائم کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ اسی لیے نماز جمعہ کی مخالفت میں اپنی ہمتیں صرف کرتے ہیں بلکہ چند مومنوں کو ان کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر گمراہ کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں اور انہیں اپنے فریب میں مبتلا کر کے ان کی مدد سے سینکڑوں صفحے کالے کر ڈالے اور وہ بھی نماز جمعہ کے خلاف جو سراسر قرآن سے بغاوت اور حکم خدا کے خلاف کھڑے ہونے کے مترادف ہے اور یہی وہ منزل ہے کہ اگر کوئی انہیں کفر کا پرچم قرار دے تو بے جا نہ ہوگا۔

گستاخی کی حد یہ ہے کہ امام زین العابدین کی دعا کی ایک خود ساختہ تاویل گھڑ ڈالی اور آل محمد کے دشمنوں کے لیے کہی ہوئی بات کو ان کے محبوبوں اور پیروکاروں پر لاگو کر کے جو آل محمد کی معنوی حکومت کا پرچار کر رہے ہیں خود اہلبیت کے پیروکاروں میں پھوٹ ڈالنے کی ایک گھناؤنی کوشش کی ہے۔

ہر محبت اہلبیت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ اگر ہم یہ مفروضہ قائم بھی کر لیں کہ نماز جمعہ واجب نہیں تو آل محمد کے محبوبوں اور پیروکاروں کے لیے یہ بات کتنی پسندیدہ ہوگی کہ نماز جمعہ کے خطبوں میں غیروں کے بجائے حضرات محمد و آل محمد پر درود و سلام کی آوازیں بلند ہوں اور ان کی ولایت کا اعلان ہوتا

رہے اور دنیا کے بے خبر لوگ حضرات آل محمد کی ولایت کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ بالکل اسی طرح جیسے اس حق ولایت کو ادا کرنے کے لیے کلمہ اور اذان میں ”علی ولی اللہ“ کا اعلان کرتے ہیں جس کی وجہ سے دشمنان علیؑ جل جاتے ہیں۔ محبوں کی خوشی اور فزوں تر ہوتی ہے اور ناواقف لوگوں کو پوچھنے کا موقع ملتا ہے اور اس طرح ان کے لیے معرفت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔

جس فرضی نام سے کتابیں پیش کی جا رہی ہیں اور جو شخص اپنے آپ کو ان کتب کا مصنف بتاتا ہے وہ حقیقت میں وہ شخص نہیں، کیونکہ ہمارا اس شخص کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ اس علمی حیثیت میں نہیں کہ ان کتب کو لکھ سکے۔ یقین کیجئے کہ ان کتب میں درج بعض اصطلاحات سے بھی یہ شخص بے خبر ہے اور نہ ہی ان کے مفہوم کو جانتا ہے۔ بس ایک ہی رٹ لگاتا ہے کہ آپ ان کتب کو پورا پڑھیں۔ یعنی اس شخص کو صرف کتب کے پڑھانے کے لیے اشتہار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہر حال بہت سارے لوگوں کو اس شخص نے باقر ثار بن کر دھوکہ دیا، لیکن جھوٹ کی ناؤ زیادہ دیر نہیں چلتی۔ ان کا یہ جھوٹ بھی اپنے گھاٹ تک پہنچا اور اہل ایمان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم جس شخص کو باقر سمجھتے رہے، وہ تو امام محمد باقرؑ کا دشمن نکلا کیونکہ ان کے مخالفین کی مدد حاصل کر کے مذہب اہلبیت کے خلاف زہرا گلنے کی ذمہ داری اپنے سر لے رہا ہے جبکہ اپنی اوقات اور ساری کائنات کو بھلا کر دوسروں کو دھمکیاں رہا ہے۔

خلاصہ یہ کہ یہ یقین ہے کہ اس سلسلہ کتب کو ضبط تحریر میں لانے والے

چند اور افراد ہیں، مگر خداوند عالم نے ان کی تحریروں میں کوئی ”برکت“ نہیں رکھی ہے اور یہ لوگ ”ضمیر فروشی“ کی جس منزل تک بھی جائیں، نماز جمعہ کے خطبوں میں آل محمد کے ناموں کے ساتھ اعلان ولایت اور ان حضرات پر درود و سلام کے سلسلے کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ خداوند عالم کا یہ وعدہ ہے کہ اپنے نور کو اتمام کی منزل تک پہنچائے گا، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے اور آل محمد کے پیروکاروں کے نزدیک ایسے لوگوں کی یہ حرکت ”محمود“ نہیں بلکہ مذموم ہے۔ چونکہ ان لوگوں کے پاس حق کی جرأت نہیں۔ باطل کی طرفداری پر شاید شرمسار بھی ہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو ظاہر کرنے سے گھبراتے ہیں۔ یہی نفاق کی سب سے بڑی نشانی ہے۔

نہ معلوم ان لوگوں کو تقلید کے لفظ سے کیوں چڑھے جبکہ ہر انسان اپنی زندگی میں ہر پہلو پر کسی ماہر کی تقلید کرنے پر مجبور ہے۔

تقلید کی چار صورتیں ہیں:

- ۱۔ کسی جاننے والے کا کسی جاننے والے کی تقلید کرنا۔ X
- ۲۔ کسی نہ جاننے والے کا کسی نہ جاننے والے کی تقلید کرنا۔ X
- ۳۔ کسی جاننے والے کا کسی نہ جاننے والے کی تقلید کرنا۔ X
- ۴۔ کسی نہ جاننے والے کا کسی جاننے والے کی تقلید کرنا۔ ✓

مندرجہ بالا چار صورتوں میں سے اول الذکر تین صورتیں حرام اور

ناجائز ہیں، جس کا ناجائز ہونا بدیہی ہے اور کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔

جبکہ چوتھی صورت ہی تقلید کی وہ قسم ہے جس کے بغیر انسان کی معاشرتی زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے اور انسان ہر قدم پر محتاج ہے کہ ہر کام کے بارے میں اس کے ماہرین کی طرف رجوع کرے اور ان کے مشورے اور رائے کے مطابق عمل کرے۔ یہی تقلید ہے اور اسی کے ذریعے عبادات کے درست بجا لانے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔

عقل کے یہ دشمن مذہبی عبادات و احکام کے علاوہ اپنے دوسرے تمام پہلوؤں میں تقلید کرتے ہیں لیکن جب امور دینی میں تقلید کا لفظ آیا ہے تو جل بھن کر رہ جاتے ہیں اور ایک خود ساختہ اختراع کر کے تقلید عام کو جائز اور تقلید خاص کو حرام قرار دیتے ہیں جو ایک احمقانہ اقدام ہے۔

مثال یوں دی جاسکتی ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے علاج کرانا تو جائز ہے مگر کسی ڈاکٹر کو اپنے فیملی ڈاکٹر کی حیثیت سے منتخب کرنا جائز نہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کی عقل و دانش۔

بر این عقل و دانش باید گریست

اس کے علاوہ تقلید عام اور تقلید خاص کی وضاحت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ ایک اور جملے پر بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے کہ تقلید کو بغیر وجہ بتائے نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک عقلی اور منطقی روش ہے کیونکہ ہم دیکھتے کہ جب کوئی بیمار ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے تو ڈاکٹر تشخیص کے بعد نسخہ لکھ دیتا ہے تو

مریض اس کی وجہ دریافت نہیں کرتا بلکہ ایسا پوچھنے کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا بلکہ نسخہ لے کر فارمیسی میں جاتا ہے، دوا خریدتا ہے اور مریض کو پلا دیتا ہے۔

اسی طرح ایک شخص کو مسئلہ درپیش ہوا۔ اس نے فتویٰ مانگا جیسا جواب ملا جا کر اس کے مطابق عمل کیا۔ یہاں دونوں صورتوں میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر اور مجتہد کے پاس ان کے نسخے اور فتوے کی کوئی دلیل نہیں۔ دونوں کے پاس دلیل ہے، اگر کوئی پوچھے تو ضرور اس کے لیے دلیل بتائی جائے گی۔ لیکن یہاں دلیل مانگنے کا کوئی مرحلہ نہیں جس کی عقل تائید کرے، ورنہ ایک فقیہ، مرجع، مجتہد جو بھی فتویٰ دیتا ہے اس کی دلیل موجود ہوتی ہے اور دلیل قرآن، حدیث اور اخبار ائمہ کی روشنی میں موجود ہوتی ہے۔ لیکن عوام کو دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں۔

فقہائے عظام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والے جاہل اکثر ایک کتاب ”من لا یحضرہ الفقیہ“ کا حوالہ دیتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ کاش ان کی علمی حیثیت اتنی ہوتی کہ اس کتاب کے نام کے معنی کو سمجھتے۔ اس کے مصنف نے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جس کے پاس کوئی فقیہ موجود نہ ہو یعنی اگر فقیہ موجود ہے تو اس کی ضرورت نہیں، یعنی پانی نہ ہو تو آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں۔

یہ بات یاد رہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں جس کسی شعبے سے

متعلق کام پیش آئے تو کسی نہ جاننے والے پر لازم ہے کہ اس شعبے کے ماہر اور جاننے والے سے رجوع کرے، جو ایک دانشمندانہ فعل ہے۔ جب زندگی کے تمام پہلوؤں میں یہ اقدام قابل تعریف ہے تو مذہبی امور اور عبادات میں یہ عمل قابل تحسین کیوں نہیں ہوگا۔ پس اپنے مذہبی امور اور ضروریات میں کسی ماہر کی طرف رجوع کرنا بھی ایک عاقلانہ اقدام ہے۔

ہر شعبے کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی سائنسدان، کوئی تاجر، کوئی کسان کہلاتا ہے۔

اسلامی اصطلاح میں مذہبی امور کے ماہر افراد کو ”مجتہد“ کہتے ہیں اور کسی مجتہد میں بعض شرائط پائی جائیں تو اس کی تقلید کر کے اپنے دینی امور میں ان کے فتوے پر عمل کیا جائے، یہی تقلید ہے۔

حضرات مجتہدین ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی زندگی علوم دینی کے حصول میں صرف کی ہے اور وہ علوم اسلامی کے ہر شعبے سے کما حقہ آگاہ ہوتے ہیں اور پھر اجتہاد کے مرتبے تک پہنچتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے جیسا بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ معالم الاصول پڑھنے کے بعد ہر شخص مجتہد بن جاتا ہے یا سر پر پگڑی باندھ کر مجتہد بن جائیں لیکن اس میں بھی شک نہیں لوگ شملہ بقدر علم کا منظر پیش کرتے ہوئے راہ خدا میں بیٹھ کر لوگ کھسوٹ میں مصروف ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کراچی میں ایسے دین سے نا آشنا لوگوں کو پگڑی پہنا کر علما نما بنا دیا ہے۔ انہوں نے بعض ایسے لوگوں کو بھی پگڑی پہنا دی جنہیں علم و مذہب

سے کوئی واسطہ نہیں بلکہ اپنی چرب زبانی سے بعض مومنوں کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے اس اقدام سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ عمامہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے اور اس کے بغیر وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے لہذا وہ مجبور ہیں کہ اسے اپنے سر پر جمار کھیں۔

آج اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے اور علوم و فنون کی وسعت کی وجہ سے ہر شخص کا حقہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا لہذا اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف شعبوں کے ماہرین کی طرف رجوع کرتا ہے اور جب ایک شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے اسی شعبے کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے تو لوگ اسے ایک عاقلانہ فعل تصور کرتے ہیں اور اسے سراہتے ہیں مگر اس معاشرے میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو مذہبی احکام میں اسپیشلائزیشن حاصل کرنے والے افراد پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں تخصص یا مہارت کی ضرورت نہیں بلکہ تم ہم لوگوں سے پوچھو ہم چاہے جانیں یا نہ جانیں۔ ہم تمہیں مذہب سمجھائیں گے مثال کے طور پر ایک پولیس آفیسر ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد جب اپنے آپ کو فارغ پاتا ہے تو کوئی مصروفیت تلاش کرتا ہے تو اسے یہ مصروفیت مذہب میں نظر آتی ہے اور وہ فوراً مذہبی علما پر تنقید کے ساتھ اپنی مصروفیت شروع کرتا ہے اور بزعم خود مذہبی رہنمائی کا کام شروع کرتا ہے۔ یوں اپنی لاعلمی اور جہالت کی بنا پر اپنے ساتھ دوسرے بہت سارے جاہلوں کو بھی گمراہی کی سرحد تک پہنچاتا ہے۔

ایک فوجی افسر ہے جس نے اپنی زندگی ملٹری سروس میں گزاری ہے اور ریٹائر ہونے کے بعد مذہبی رہنما بن گیا اور اس نے سب سے پہلا قدم علما کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے اٹھایا اور انہیں قسم قسم کے حربوں کے ذریعے داغدار کرنے کی کوشش شروع کی صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے گرد جہلا کا ایک خاص گروہ بھی تیار کر لیا جو اس کے حکم پر لڑنے مرنے پر بھی تیار رہتے ہیں۔ دراصل یہ اس کے تنخواہ دار ملازم ہوتے ہیں جو اسی مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں۔

اس طرح ایسے افراد ملک کے سب سے بڑے صوبے میں مومنوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر کے ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے، ان کے ساتھ ان حضرات نے بھی اس میں کافی کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے مذہب مخالف سے تعلق قطع کر کے مذہب تشیع اختیار کیا ہوا ہے۔ ان افراد نے مذہب اہلبیت کو قبول تو کر لیا مگر احکام شریعت کو اہلبیت کی تعلیمات کی روشنی میں سیکھنے میں غفلت سے کام لیا۔ عقائد میں تو انہیں کامیابی ہوئی مگر عبادات اور دوسرے تشریحی احکام کے سمجھنے سے محروم رہے۔

جس انداز سے پنجاب میں شہادت ثالثہ کا شوشہ اٹھایا گیا وہ قابل توجہ ہے۔ اسی کو سبب بنا کر کتنے سارے علمائے کرام کو خدمات کی ادائیگی سے محروم کر کے ان کی جگہ ایسے جاہلوں کو رکھا گیا جو خود شہادت ثالثہ کے مفہوم و معنی کو بھی نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی قرآن درست پڑھ سکتے تھے۔ جب ایسے افراد کو

امام بنایا جائے تو عوام کی علمی حالت کیا ہو جائے گی۔ بہر حال یہ ایک المیہ ہے جس کی وجہ سے ملت جعفریہ میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

یہ لوگ بزعم خود حضرت علیؑ کے دفاع میں قدم اٹھا رہے ہیں مگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس کے علاوہ بھی نماز میں علیؑ کا ذکر موجود ہے۔ یعنی سب سے بڑی نعمت جو آل محمد کو ملی نماز کے دوران آل محمد پر درود ہے جس میں آل محمد کے فرد اول حضرت علیؑ ابن ابی طالب ہیں اور جو اس میں شک رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے عقیدہ و ایمان پر نظر ثانی کرے۔

تشہد میں تو حید و رسالت کی گواہی کے بعد صرف علیؑ نہیں بلکہ تمام آل محمد صلوٰۃ میں برابر کے شریک ہیں۔ جس کے بارے میں امام شافعی نے کہا۔

يا اهل بيت النبي حاكم

فرض من الله في القرآن انزلہ

كفاكم من عظيم القدر انكم

من لم يصل عليكم لا صلوٰۃ له

اے اہلبیت رسول تمہاری محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نازل کیے ہوئے قرآن میں فرض قرار دیا ہے اور آپ لوگوں کی عظیم قدر و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو شخص اپنی نماز کے دوران آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز، نماز قرار نہیں پاتی ہے۔

یاد رہے فقہ اہلبیت کی عظمت اور اہمیت کا اعتراف مخالفین بھی کرتے

ہیں جیسے کہ ملاحظہ ہو کتاب معجم فی فقہ السلف اس کے مصنف محمد المنتظر الکتانی ہیں جو جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کے استاد ہیں۔ اور یہ کتاب بھی مکہ مکرمہ سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کے صفحہ ۴ پر یوں لکھا ہے:

”فقہ عترۃ اس فقہ کا تعلق صحابہ اور تابعین کے علاوہ دوسرے افراد سے ہے فقہ عترۃ دوسری تمام فقہوں سے ممتاز ہے کہ اس میں ماں، باپ، حمل، ولادت، رضاعت، دودھ چھڑانا، گود لینا، تربیت اطفال خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ان کی تعلیم و تربیت کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ وہ بڑے ہو کر اپنے ملک و ملت کے لیے صالح اور نیکو کار مردوزن بنیں۔“

اس کتاب (معجم فی فقہ السلف) میں فقہ عترۃ سے مراد فقہ فاطمہ بنت رسول اللہ ہے۔ آپ کے فقہی فیصلوں کی تعداد بہت محدود ہے، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی فقہ کا مجموعہ ضخیم کتاب کی صورت میں جمع ہو سکتی ہے اور امیر المؤمنین حسن بن علی، امام حسین بن علی، امام محمد حنفیہ بن علی ابن ابی طالب، جناب عبداللہ کامل ابن حسن ثنیٰ ابن حسن بن علی ابن ابی طالب، امام زین العابدین بن حسین بن علی ابن ابی طالب، امام جعفر صادق ابن محمد باقر، امام محمد باقر بن علی زین العابدین، عبداللہ بن محمد حنفیہ کی فقہ اور فقہ حسن بن محمد حنفیہ رضی اللہ علیہم مراد ہے۔

فقہ عترت تک رسائی حاصل کرنا علم و ہدایت کے حصول میں کامیابی اور گمراہی سے نجات ہے اور کتاب اللہ کے ساتھ ملکر یہ وسیلہ ہدایت اور جنت

میں جانے کے لیے یہ محفوظ راستہ ہے۔

رسول اکرمؐ نے حجۃ الوداع کے دن عرفہ میں ایک لاکھ یا اس سے زیادہ صحابہ کے سامنے اس بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ جابر نے کہا کہ میں نے رسول اکرمؐ کو حجۃ الوداع کے دن عرفہ کے مقام پر دیکھا کہ اپنے ناقہ قصویٰ پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا: ”میں تم لوگوں میں اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اہلبیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے، ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔“

ابن ارقم نے کہا کہ آنحضرت نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ عظیم ہے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے جو آسمان سے زمین تک ایک مضبوط رسی ہے اور میری عترت اہلبیت یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں۔ دیکھو کہ میرے بعد تم ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہو؟

اس روایت کو صحابہ کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں علی ابن ابی طالب، زید بن ثابت، زید بن ارقم، جابر بن عبد اللہ، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری اور حذیفہ بن یمان شامل ہے۔ ان میں سے تخریج کی ہے۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں، احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، بیہقی نے کہا کہ اس حدیث کی سند بہت عمدہ ہیں اور بزاز نے اپنی دونوں مسندوں میں اس حدیث کا ذکر

کیا ہے اور طبرانی نے معجم کبیر اور اوسط میں بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔“
یہ تحریر جامعہ ام القرئی کے پروفیسر محمد المنتصر الکتانی کی ہے۔ ”مشک
آنست کہ خود بوید نہ کہ عطار بگوید“ فقہ اہلبیت کی خوشبو کو اپنے ہی نہیں غیر بھی
محسوس کرتے ہیں اور اسی کی عظمت، اہمیت اور حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں۔
جب فتویٰ دینے کی بات ہوتی ہے تو یہ منافقین اپنے جہلا کے درمیان
مجتہدین کرام کو حضرات ائمہ کے مقابل پیش کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں بلکہ
حضرات معصومین کی تعلیمات اور روایات میں سے احکام شریعت کو چھان
پھٹک کر تحقیق اور جستجو کرنے کے بعد جس حکم کے بارے میں یقین ہو جائے کہ
یہ حکم قرآن و سنت اور معصومین کی تعلیمات سے ثابت ہے تو اسی کو فتویٰ کی
صورت میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ حضرات معصومین سے جو روایات اور اخبار
ہمیں ملی ہیں وہ بعض اوقات ایک دوسرے سے مختلف حکم کی حامل ہوتی ہیں جو
نقل روایت یا راویوں کے بھول چوک، عدم فہم یا غلطی کی بنا پر ہوتی ہے اور
روایات کی ایسی ہی غلطیوں کو جاننے کے لیے صحیح اور حسن اخبار کو ضعیف سے
الگ کرنے کے لیے علم درایت وجود میں آیا اور تمام روایات کو درایت کے
اصولوں کے تحت جانچ کر ہی کسی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرجع فقیہ یا
مجتہد کوئی فتویٰ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی حکم نافذ
کرتا ہے بلکہ یہ حضرات حضور اکرم کی احادیث، حضرات معصومین کی روایات کو
قرآن کریم سے مطابقت کرتے ہوئے صحیح اور ضعیف احادیث و اخبار کی چھان

بین کرتے ہوئے صحیح اور درست اخبار و احادیث کی روشنی میں خدا، رسول اور
امام کا حکم ہی فتویٰ کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔

مجھے یہ وضاحت اس لیے پیش کرنی پڑی کہ بعض خناس صفت لوگ
عوام کے درمیان یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجتہد کے فتوے
دراصل امام کے حکم کے مقابلے میں ہوتے ہیں جو سراسر ایک بہتان اور علمی
خیانت ہے۔ خصوصاً میں قارئین کو کشف تضاد کی طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتا
ہوں جس میں ایسی صریح خیانت کا ارتکاب کیا گیا ہے اور بعض ایسے مسائل
شرعی فتویٰ کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں جن کا وجود مراجع کی فتاویٰ کی
کتب میں سرے سے موجود ہی نہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چند جاہل اپنے قلم اور زبان کے ذریعے دینی
مقدسات سے کھیلنے کی جسارت کر رہے ہیں مگر صاحبان ایمان اس کی اجازت
نہیں دیں گے۔ خلاصہ یہ کہ یہ ایک قلمی خیانت ہے جسے قلم بھی معاف نہیں
کرے گا

قلم گفتا کہ من شاہ جہانم

قلم کش را بہ مطلب میرسانم

قلم گفتا کہ من شاہ جہانم

قلم کج را بدوزخ میرسانم

علم اصول کی تدوین میں ائمہ معصومین کا کردار

عام طور پر چند بے اصول لوگ جو اپنے آپ کو اخباری ہونے کی چھتری تلے تحفظ دینا چاہتے ہیں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مذہب شیعہ کے اصولی علما نے اصول فقہ اہلسنت سے لیا ہے۔ اپنے اس الزام کے ذریعے درحقیقت وہ اپنے ائمہ کے بارے میں اپنی عدم معرفت کا اظہار کرتے ہیں جبکہ وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ واقعاً اصولی علما نے اصول فقہ غیروں سے لیا ہے کیونکہ انہیں ائمہ نے اس سے بے نیاز کر دیا ہے۔ کیونکہ حضرات ائمہ معصومین کا علمی مقام کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہ صرف عالم نہیں بلکہ معدن علم ہیں۔

حضرت امیر المومنین کا ارشاد ہے: انا اهل البيت شجرة النبوة،
و موضع الرسالة، و مختلف الملكة و بيت الرحمة و معدن
العلم

ہم اہلبیت نبوت کا شجر ہیں۔ رسالت الہی کا موضع اور ملائکہ کے آنے
جانے کی جگہ ہیں۔ رحمت کا گھر اور علم کا خزانہ ہیں۔

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: نحن خزان علم الله، نحن تراجمہ

امر اللہ، نحن قوم معصومون، امر اللہ تبارک و تعالیٰ، بطاعتنا،
و نہی عن معصیتنا، نحن حجة الله البالغه علی من دون السماء
و فوق الارض

ہم اللہ کے علم کے خزانے ہیں۔ ہم اللہ کے احکام کے ترجمان ہیں۔ ہم
معصوم گروہ ہیں۔ خداوند عالم نے ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے اور ہماری
نافرمانی سے منع کیا ہے۔ ہم آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جو پہنچے ہیں اس
کے لیے اللہ کی حجت بالغہ ہیں۔

امام جوادی نے اپنے بچپن میں تیس ہزار مشکل مسائل کا جواب دیا۔ جس
سے بڑے بڑے علما حیران رہ گئے۔ ملاحظہ کیجئے۔

(بحار الانوار، ج ۵۰، ص ۹۳)

چونکہ حضرات معصومین کا علم مبدأ وحی سے متصل ہے اور کسی خاص موقع
اور جگہ سے محدود نہیں ہے، اس لیے جب وہ چاہتے ہیں خدا کے حکم سے جان
لیتے ہیں۔ اصول کافی سے چند احادیث ہم لکھتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ صاحب
کن فیکون کے حقیقی بندے کس مقام و منزلت پر فائز ہوتے ہیں۔

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا: ان الامام اذا شاء يعلم علم

امام جب چاہتا ہے کہ جان لے تو جان لیتا ہے۔

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا: ان الامام اذا شاء ان يعلم اعلم

بے شک جب امام چاہتا ہے حاصل کرے تو اسے علم دیا جاتا ہے۔

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے: اذا اراد الامام ان يعلم شيئاً

اعلمه الله ذالك

جب بھی امام کسی چیز کو جان لینا چاہتا ہے تو خداوند عالم انہیں اس کا علم

دیتا ہے۔

(اصول کافی، ج ۱، ص ۲۵۸، ح ۳۰۲، ۱۷)

حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ائمہ معصومین کے بارے

میں فرمایا: فيهم كرائم القرآن، و هم كنوز الرحمن ان نطقوا

صدقوا ان صمتوا لم يسبقوا

ان میں قرآن کریم کے نفائس موجود ہیں، رحمان پروردگار کے خزانے

ہیں۔ اگر بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں تو کوئی ان سے

آگے نہیں بڑھ سکتا۔

(نسخ البلاغ، خ ۱۳۳)

اور جو کچھ ان حضرات کے ذریعے ملا ہے صحیح اور درست علم ہے امام

باقتر نے سلمہ بن تسہیل اور حکم بن عتیبہ سے فرمایا: شرقاً و غرباً فلا تجدان

علماً صحيحاً الا شيئاً صحيحاً خرج من عندنا اهل البيت

تم مشرق و مغرب میں ڈھونڈو تم کوئی درست اور صحیح علم حاصل نہیں

کر سکتے مگر وہی علم صحیح و درست ہوگا جو ہم اہلبیت کے ذریعے ملا ہو۔

(حرعائلی، وسائل الشیعہ، ج ۱۸، ص ۲۲۲، ۱۶، ۲۲۲، ۲۲۶)

امام جعفر صادق کا ایک شاگرد فضیل کہتا ہے کہ میں نے ابا جعفر امام محمد

باقر کو فرماتے ہوئے سنا: کل مالم یخرج من هذا البيت فهو باطل
جو بھی (علم) خاندان وحی اہلبیت سے نہ ملا ہو، باطل ہے۔

(وسائل الشیعہ، ج ۱۸، ص ۳۵۰-۳۵۱)

ہمیں اپنے ائمہ معصومین کے علمی مقام کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ یہ
نامناسب ہے کہ اپنے ائمہ کی دوسرے دینی رہبروں سے موازنہ کریں کیونکہ
ائمہ معصومین خدا کے چنے ہوئے ہیں اور دوسرے پیشوا مخلوقات کے چنے
ہوئے ہیں۔ جو خدا کے چنے ہوئے ہیں حقیقی علم رکھتے ہیں۔ تحصیل علم اور عمر کی
کمی بیشی ان کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔

اصول کافی، بصائر اور بحار میں متواتر روایات ملتی ہیں جن سے ثابت
ہوتا ہے کہ ان کا علم اکتسابی نہیں بلکہ یہ لوگ کامل ترین انسان اور اسما و صفات
الہی کے مظہر تام ہیں۔ اللہ کے اسما میں سے ایک علیم ہے۔ لہذا ائمہ کا علم خدا
کے علمی خزانے سے متصل ہے۔ تاریخی شواہد اور ائمہ کی سیرت گواہ ہے کہ
حضرات ائمہ نے کسی بھی استاد کے سامنے زانوئے ادب تہ نہیں کیا۔ کسی استاد یا
مکتب کے محتاج نہیں تھے۔ لوگوں سے کچھ یاد نہیں کیا۔ بلکہ لوگوں کو سکھانے
کے لیے خدا نے منتخب فرمایا۔

بکر بن کرب کا کہنا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق کو فرماتے ہوئے

سنا: اما واللہ ان عندنا ما لا تحتاج الی الناس و ان الناس

محتاجون الینا

خدا کی قسم ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کی بنا پر ہم لوگوں کے محتاج نہیں ہیں بلکہ لوگ ہمارے محتاج ہیں۔

(بخاری الانوار، ج ۲۶، ص ۲۱، ج ۸)

سیبویہ کے استاد خلیل بن احمد بصری متوفی ۱۷۵ھ ق حضرت امیر المؤمنین کے بارے میں کہتے ہیں: احتیاج الكل اليه واستغناؤه عن الكل دليل على انه امام الكل

تمام لوگوں کا ان کی طرف محتاج ہونا اور ان کا تمام لوگوں سے بے نیاز رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب کے امام ہیں۔

(ائمہ اور علم اصول فقہ اور مہر کمادی، ص ۳۹)

ائمہ کے لیے علمی منابع جہاں تک تاریخی شواہد سے ملتے ہیں یوں ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی۔

قرآن کریم:

خدا کی کتاب تمام علوم اور دانشوں کا منبع اور ذخیرہ ہے جیسے قرآن کے بارے میں امیر المؤمنین نے فرمایا: واللہ ما نزلت آية الا وقد علمت فيم انزلت و این نزلت

خدا کی قسم قرآن کی ہر آیت کے بارے میں مجھے علم ہے کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔

(انساب الاشراف بلاذری، ج ۱، ص ۹۹)

یا امیر المؤمنین کا ارشاد: لو اردت ان او قد علی الفاتحہ سبعین

بعیر الفعلت

اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں جو ستر اونٹوں کا بار بنے۔

(التراتیب الاداریہ، ص ۱۸۳، ج ۳)

عبدالاعلیٰ مولا آل سام کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق کو فرماتے

سنا: واللہ انی لا علم کتاب اللہ من اولہ الی اخیرہ فی کفی فیہ

خبر السماء و خبر الارض و خبر ما کان و خبر ما هو ای کون

قال اللہ عز و جل فیہ تبیان کان شئی

خدا کی قسم! میں خدا کی کتاب کا شروع سے آخر تک کا اس طرح علم

رکھتا ہوں گویا سب کچھ میرے کف دست میں ہو جس میں آسمان کی خبریں اور

زمین کی خبریں ہوں جو ہو چکی ہوں اور جو ہونے والی ہوں جیسے کہ خداوند عالم کا

ارشاد ہے: اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔

وراثت پیغمبر:

حضرات ائمہ معصومین کے علم کا دوسرا منبع پیغمبر اکرم کی وراثت ہے۔ وہ

ان معنوں میں کہ حضور اکرم نے تمام اسلامی معارف اور شرائع امیر المؤمنین کو

سکھائے اور آپ نے یہی علم اپنے بعد ائمہ کو منتقل کیا جیسے کہ حضور اکرم نے

فرمایا: انا مدینة العلم و علی بابها.

میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ یہ حدیث تمام کتب شیعہ

دینی میں موجود ہے۔

خود حضرت علی سے پوچھا جاتا تھا کہ دوسرے صحابہ کی نسبت آپ سے حضور اکرم کی زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں: فَمَا نَسِيتَ حَدِيثًا وَ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

حدیث جو کچھ بھی میں رسولؐ سے سنا ہے اسے نہیں بھولا ہوں اور حضور اکرمؐ نے آپ کو کیسے سکھایا ہے؟ تو اس اس بارے میں خود حضرت علی فرماتے ہیں: لَآنِي كُنْتُ إِذَا سَأَلْتَهُ أُنْبَأَنِي وَ إِذَا سَكَّتْ أَبْتَدَأَنِي.

جب میں پوچھتا تھا تو آپ مجھے بتاتے تھے اور جب خاموش رہتا تھا تو آپ خود ابتدا کرتے تھے۔

ابا بصیر کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ آپ کے پیروکاروں کا کہنا ہے کہ حضور اکرمؐ نے حضرت علی کو ایک باب سکھایا اور آپ نے اس میں ہزار باب کھولے ہیں؟ یہ سن کر امام نے فرمایا: نہیں، علم

رسول الله علياً الف بابا النفتح من كل باب الف باب

بلکہ رسول اکرمؐ نے امیر المؤمنین کو ایک ہزار باب سکھائے اور آپ نے ہر باب سے ہزار باب اور کھولے ہیں۔

(بحار انوار، ج ۲۶، ص ۲۸، ح ۲۸)

ابن عباس حضرت علی کے علم کے بارے میں کہتا ہے کہ ”پیغمبر اکرمؐ کا علم خدا کے علم سے ہے اور علیؑ کا علم پیغمبر اکرمؐ کے علم سے ہے اور میرے علم کا

سرچشمہ علی کا علم ہے۔ میرا اور دوسرے تمام صحابہ کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ساتوں سمندر کی نسبت ایک قطرے کی مانند ہے۔“

(الغدیر، ج ۲، ص ۲۵)

متعدد روایات میں وارد ہوا ہے کہ حضرات ائمہ نے فرمایا: ہماری باتیں رسول اکرم کی سند کے ساتھ ہیں۔ جو کچھ ہم بتائیں ان تمام کو پیغمبر اکرم سے روایت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کے ذریعے خود پیغمبر اکرم سے سنا ہے۔

ایک دفعہ امام جعفر صادق کے ایک صحابی نے آپ سے پوچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ سے کوئی حدیث سنتے ہیں اور بعد میں شک ہوتا ہے کہ آپ سے سنا ہے یا آپ کے آباء کے کرائم سے۔ اس صورت میں ہم کس طرح روایت کریں؟ تو آپ نے فرمایا: ما سمعتہ منی فاروہ عن ابی و ما سمعتہ منی فاروہ عن رسول اللہ۔

جو کچھ تم مجھ سے سنتے ہو اسے میرے والد کے نام سے روایت کرو اور

جو کچھ مجھ سے سنتے ہو اسے رسول اللہ کے نام سے روایت کرو۔

(جامع احادیث الشیعہ، ج ۱، ص ۱۷)

ایک اور جگہ فرمایا: حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث

جدی و حدیث جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین

حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین و

حدیث امیر المومنین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ
قول اللہ تبارک و تعالیٰ

میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے۔ میرے والد کی حدیث داد
کی حدیث ہے اور میرے دادا کی حدیث امام حسین کی حدیث ہے اور امام
حسین کی حدیث امام حسن کی حدیث ہے اور امام حسن کی حدیث امیر المومنین
کی حدیث ہے اور امیر المومنین کی حدیث رسول کی حدیث اور رسول کی حدیث
اللہ کا فرمان ہے۔

(جامع احادیث الشیعہ، ص ۱۲)

دراصل ائمہ کا اسلوب اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو مرکزیت دیتا ہے
اور جو کچھ ان کے پاس علمی اثاثہ ہے انہیں دوزریعوں سے ہے۔ اسی لیے امام
صادق سے جب کسی نے پوچھا کہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے وہ ذاتی رائے سے
کہا ہے؟ آپ نے فرمایا: جو جواب میں نے تمہیں دیا ہے وہ رسول خدا سے ہے۔
ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ ان دوزریعوں کے علاوہ تمام آسمانی کتابوں
سے مکمل آگاہی نیز خدا کی طرف سے امام اور کتاب جامعہ اور صحف فاطمہ بھی
ائمہ کے علوم کا منبع اور سرچشمہ ہے۔

حضرات ائمہ کا علم صادقین کے دور میں پھلا پھولا جو بنی امیہ کی حکومت
کا زوال اور بنی عباس کی حکومت کا ابتدائی دور تھا۔ لہذا حضرت امام باقر اور
امام جعفر صادق کو ایک موقع ملا کہ مختلف علوم اسلامی کے لیے حوزہ تشکیل دے

دیں اور فقہ آل محمد کو رائج کریں اور رائج کرنے کا موقع فراہم کریں۔ امام باقر نے مختلف اسلامی علوم کو مختلف شعبوں میں تقسیم کیا اور امام صادق نے انہی بنیادوں پر علوم آل محمد کا پرچار کیا اور انہی حضرات کے دور میں بڑے بڑے علما اور فقہا وجود میں آئے۔ جیسے ہشام، ابان بن تغلب، محمد بن مسلم، زرار ابن اعیس، جعفر بن یزید جعفی، عمران بن شیبانی، مفضل بن عمر شععی، ابوبصیر، تبرید عجل اور حماد وغیرہ اسی مکتب صادقین کے تربیت یافتہ ہیں۔ ان کے علاوہ اہل سنت کے تمام پیشوا بلا واسطہ یا بالواسطہ ان دو ائمہ کے شاگرد تھے۔ ابوحنیفہ کا جملہ مشہور ہوا: **لولا السنن لہلک النعمان**۔

اگر وہ دو سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو چکا ہوتا۔

جب پوچھا گیا کہ کون سے دو سال؟ جواب میں فرمایا کہ وہ دو سال جو میں نے امام جعفر صادق کی شاگردی میں گزارے۔

اسی طرح مالک بن انس بھی جو اہلسنت کے معروف امام ہیں، امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے ہیں۔ امام شافعی بھی امام جعفر صادق کے بالواسطہ شاگرد ہیں، کیونکہ انہوں نے مالک بن شافعی سے سیکھا۔ امام احمد حنبل بھی امام صادق کے بالواسطہ شاگردوں میں سے ہیں کیونکہ ان دونوں نے امام جعفر صادق کی شاگردی اختیار کی۔

حسن بن وشانے کہا ہے کہ میں نے مسجد کوفہ میں نو سو سے زیادہ اساتذہ کو دیکھا جو سب کے سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جعفر بن محمد سے سنا ہے۔

یہاں تک کی گفتگو سے ائمہ کی منزلت علمی منزلت کا پتہ چلا تو ہمیں علم اصول میں ان کے کردار پر گفتگو کرنا آسان ہوا کیونکہ ائمہ بھی پیغمبر اکرم کی طرح احکام الہی کو بیان کرنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں اور انسانوں کی ضرورت کی بقدر معارف اپنے پیروکاروں کو سکھا دیا ہے۔ علم اصول میں ائمہ کے کردار کو سمجھنے کے لیے ان حضرات کی زندگی کو چار ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں:

پہلا دور: پیغمبر اکرم سے لے کر حضرات صادقین کا دور

دوسرا دور: حضرات صادقین کا دور

تیسرا دور: حضرات صادقین کے بعد سے لے کر عصر غیبت تک

چوتھا دور: عصر غیبت کے بعد کا دور

پہلے دور کو ہم تمہیدی دور کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا دور علم اصول کی پیدائش کا دور ہے۔ تیسرا دور علم اصول کے پھیلاؤ کا دور ہے اور چوتھا دور علم اصول کے رائج ہونے کا دور ہے۔

پہلا دور:

پیغمبر اکرم کی وفات سے لے کر امام محمد باقر تک تمام ائمہ کی کوشش اسلام کے نئے پودے کی حفاظت کرنا تھا اور داخلی اور بیرونی خطرات سے بچانا تھا اور ساتھ ہی خلفاء کی علمی اور سیاسی مشکلات کو حل کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ ساتھ ہی حکمرانوں کی فقاہت و اجتہاد کی روش پر تنقید کرتے رہے۔ علم اصول کی پیدائش کے لیے ضمیمہ فراہم کیا۔ اجماع اور قیاس کے

بارے میں ان حضرات کے ارشادات موجود ہیں۔

دوسرا دور:

یہ دور علم اصول کی پیدائش کا دور ہے کیونکہ یہ دور بنی امیہ کی خلافت کا آخری دور اور بنی عباس کی خلافت کا ابتدائی مرحلہ تھا، اس لیے حضرات صادقین علیہما السلام کو ایک موقع ملا کہ درس اور تدریس کے لیے بڑے بڑے شاگردوں کی تربیت کریں اور اسلامی علوم کو مختلف شعبوں میں تقسیم کیا۔

اس بنا پر ہم اگر امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادقؑ کو علم اصول کے بانی قرار دیں تو بے جا نہیں کیونکہ ان حضرات کا اصول و قواعد بتانا، صحیح استنباط کے طریقے سکھانا اور اجتہاد کرنے کی ترغیب اور تشویق دینا ہمارے دعوے کی صداقت کی دلیل ہے۔

سید حسن الصدر، تاسیس الشیعہ میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے اصول فقہ کی بنیاد رکھی اور اس کے دروازے کھولے اور اس کے مختلف مسائل کو ایک دوسرے سے الگ کیا، وہ امام محمد باقرؑ ہیں۔ ان کے بعد آپ کے فرزند امام جعفر صادقؑ نے خود اپنے اصحاب اور شاگردوں کو اصول فقہ کے قواعد املا کرائے۔ آپ کے اصحاب اور شاگردوں نے ان ابواب اور فصول کی دستہ بندی کر کے مدون کیا۔

امام جعفر صادقؑ کے ان فقیہ شاگردوں میں سے چند ایک کے نام کا ذکر ہم یہاں کریں گے جنہیں ہمارے مذہب حقہ میں بڑی اہمیت حاصل

ہے۔ ابان بن تغلب، ابان بن عثمان احمد الجبلی، ابو عبد اللہ الکلونی، بکیر بن اعین، جمیل بن دراج، حماد بن عثمان بن زیاد الرواسی الحارث بن مغیرہ، ہشام بن حکم کندی، معالی بن حسین، برید عجل جمیل بن صالح اسدی، حماد بن زید، حبیب بن ثابت، حمزہ بن طیار، محمد بن لی ابن نعمان المعروف مومن طاق اور زرارہ بن اعین۔

ان میں سے چھ حضرات کو امام نے اسی زبان مبارک سے ”افقہ الناس“ کا خطاب دیا ہے یعنی زرارہ بن اعین، معروف بن خربوز، برید عجل، ابو بصیر اسدی، فضل بن سیار، مسلم الطائی ان چھ میں سے امام نے زرارہ بن اعین کو افقہ کہا۔ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں چند سطور اختصار کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تاکہ پتہ چلے کہ حضرات صادقین کے مدرسے سے کیسے کیسے نابغہ روزگار افراد تربیت پا کر مکتب اہلبیت کو پھیلانے میں مصروف عمل رہے۔

ابان بن تغلب:

آپ نے تین اماموں کا زمانہ پایا یعنی حضرت علی زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق۔ آپ ہی کے عہد میں وفات پائی۔ بڑے جلیل القدر اور ثقہ تھے۔ امام محمد باقر نے انہی سے فرمایا: اجلس فی مسجد المدینة و افت الناس فانی احب ان بری فی شیعتی مثلک۔

مسجد مدینہ میں بیٹھ کر فتویٰ دو کیونکہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے شیعوں

(الفہرست طوسی، ص ۴۰)

میں تم جیسے لوگ ہوں۔

ابان بن تغلب قاری، فقہ اور لغات کے ماہر تھے۔ نجاشی نے کہا ہے کہ آپ تمام علوم پر سبقت رکھتے تھے۔ قرآن، فقہ، حدیث، ادب، لغت و نحو میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے امام جعفر صادقؑ سے تیس ہزار سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔ اہلسنت کے علما نے بھی ان کے صدق و دیانت کا اعتراف کیا ہے جیسے کہ یاقوت حموی نے لکھا: یہ قاری تھے، لغت کے ماہر اور امامیہ کے فقیہ تھے۔ ثقہ اور جلیل القدر، انہوں نے امام زین العابدینؑ اور امام جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے۔

(معجم الادبا، ج ۱، ص ۱۱۷)

ذہبی لکھا ہے کہ ابان بن تغلب شیعہ سمجھے جاتے ہیں۔ بدعتی ہیں مگر ہمیں ان کی سچائی سے واسطہ ہے۔

(میزان الاعتدال، ج ۱، ص ۴)

ابن عدی کہتے ہیں کہ ابان بن تغلب روایت میں سچے ہیں گو کہ ان کا مذہب شیعہ ہے ان سے روایت میں کوئی حرج نہیں۔

اہلسنت اور شیعہ دونوں کے نزدیک ثقہ روای کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔

ابان بن عثمان بجلی:

کوفہ کے رہنے والے تھے۔ بصرہ میں بھی اقامت تھی۔ آپ امام جعفر صادقؑ اور امام موسیٰ کاظمؑ سے روایت کرتے تھے۔ ابن حبان نے انہیں

فقہ قرار دیا ہے۔ حضرات ائمہ کے علاوہ آپ کے اصحاب سے بھی روایت کرتے ہیں جیسے زرارہ بن اعین، فضیل بن یسار، عبدالرحمان بن ابی عبداللہ۔ بکیر بن اعین شیبانی یہ زرارہ کے بھائی ہیں۔

برید عجبلی:

برید بن معاویہ ابوالقاسم العجبلی متوفی ۸۴۸ھ، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے اصحاب میں سے ہیں۔ دونوں سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا شمار اصحاب اجماع میں سے ہے، جن چھ حضرات کو امام نے افقہ الناس کہا تھا ان میں سے ایک ہیں۔ یعنی زرارہ ابن اعین، معروف بن خربوذ، برید عجبلی، ابوبصیر اسدی، فضیل بن یسار، محمد بن مسلم۔

ہشام بن حکم کندی:

کوفہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ اس وقت کوفہ مختلف اسلامی مذاہب کا مرکز تھا اور علمی مباحث زوروں پر تھے۔ ہشام کو ان کے چچا نے امام جعفر صادق کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ نے علم فقہ، حدیث اور تفسیر کی تعلیم امام جعفر صادق سے حاصل کی۔ ان کی ایک کتاب کتب اربعہ میں شامل ہے۔ امام جعفر صادق کی وفات کے بعد آپ امام موسیٰ کاظم کی خدمت سے وابستہ رہے۔

حمزہ بن طیار:

ان کا پورا نام حمزہ بن محمد الطیار ہے۔ آپ کا شمار فقہاء میں ہوتا ہے۔ آپ تمام متکلمین سے فائق تھے۔ فقہ و حدیث اور تفسیر کے ساتھ مناظرے میں بھی بے مثال تھے۔ حضرات معصومین اگر چہ اپنے پیروکاروں کو مناظرے سے روکتے تھے مگر حمزہ بن محمد الطیار کے مناظروں کا تذکرہ سن کر خوش ہوتے تھے۔ ان چند افراد کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات فقہاء خود حضرات معصومین کے دور میں موجود تھے۔ ائمہ انہیں ترغیب و تشویق کرتے تھے کہ وہ اس میدان میں آگے بڑھیں اور لوگوں کی رہنمائی کریں، البتہ حضرات معصومین کی موجودگی میں لوگ ان کی طرف زیادہ رجوع نہیں کرتے تھے۔ لہذا اگر حضرات معصومین کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتے تو اپنے مسائل کے بارے میں پوچھتے کہ ہم کس سے ان مسائل کو پوچھیں تو حضرات معصومین اس زمانے کے فقہاء کی طرف بھیجتے کہ یہ لوگ تمہارے مسائل کا حل جانتے ہیں۔ اس طرح غیبت صغریٰ کے بعد سے فقہاء کی ضرورت کا احساس ہوا اور لوگ حضرات معصومین کے نائبین کی حیثیت سے ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔

آیت اللہ اعظمی سید سعید الحکیم طباطبائی سے

مرجعیت کے بارے میں ایک سوال

یہ مقالہ آیۃ اللہ سید سعید الحکیم دام ظلہ العالی کی ایک کتاب
”حول المرجعیۃ“ سے ترجمہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔

سوال: کیا شیعہ اہلبیت کے نزدیک علماء کی تقلید اور ان سے رجوع کرنا ائمہ کی
موجودگی میں یا غیبت صغریٰ میں رائج تھا یا بعد میں رائج ہوا ہے؟

جواب: تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے اور
درود و سلام ہو ہمارے سردار اور نبی حضرت محمدؐ اور ان کی پاک آل پر اور قیامت
تک ان کے تمام دشمنوں پر لعنت ہو۔

علماء سے رجوع اور ان سے احکام شرعیہ کے بارے میں سوال کرنا،
شیعوں کی سیرت رہی ہے اور ابتدائے اسلام سے تمام مسلمانوں کا وطیرہ رہا
ہے اور ہر زمانے میں ایک مخصوص جماعت کو فتویٰ دینے والوں کی حیثیت سے
پہچانا جاتا تھا۔ اس نہج میں بعض علماء شیعہ کی اس ذمہ داری پر نصوص ضمانت

دیتی ہیں۔ جیسے ابان بن تغلب، جن کے بارے میں شیخ طوسی فرماتے ہیں، حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں: ”اے ابان! مسجد مدینہ میں بیٹھو اور لوگوں کو فتویٰ دو۔ تحقیق میں اپنے شیعوں میں تجھ جیسا دیکھنا چاہتا ہوں“.....
 ”فاجلس و افت الناس.....“

معاذ بن مسلم انخوی جیسے، وہ حدیث میں امام صادق سے روایت کرتے ہیں، امام نے فرمایا: میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں میں بیٹھتے ہو اور فتویٰ دیتے ہو۔ میں نے کہا: جی ہاں اور میں اس کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا بھی چاہتا تھا، اس سے قبل کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔

میں مسجد میں بیٹھتا ہوں۔ کوئی آدمی آتا ہے اور کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھتا ہے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ آپ کے مخالفوں میں سے ہے تو میں وہی بتا دیتا ہوں جیسا وہ عمل کرتے ہیں، اور جب کوئی آدمی آئے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ آپ سے محبت و مودت رکھنے والا ہے تو میں اسے وہی کچھ بتا دیتا ہوں جو آپ سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور جب کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ وہ کون ہے تو میں اسے دونوں اقوال بتا دیتا ہوں یعنی فلاں نے یوں کہا ہے اور فلاں سے یوں نقل ہوا ہے اور آپ کے قول کو ان کے درمیان ڈال دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ”ایسا ہی کرو۔“

صدر اول میں فقہ امامیہ، فقہا کے ذریعے نمایاں نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ شیعوں پر مشکلات اور فتنوں کا دور رہا جس سے ان کی تمام توجہات سیرت

اہلبیت سے وابستگی اور سیاست کی طرف مرکوز رہی۔ فقہ کے احکام کا بغیر استدلال کے بیان کرنا اہلبیت اور غیر اہلبیت دونوں میں رائج تھا۔ بسا اوقات عام لوگ فتویٰ دیتے تھے اور غفلت کی وجہ سے ایسے احکام بتاتے تھے جس میں اہلبیت علیہم السلام کی تعلیمات کی مخالفت ہوتی تھی۔

کربلا کے دردناک واقعے کے فوراً بعد اہلبیت علیہم السلام کا مقام اور حق ظاہر ہوا۔ باطل اور گمراہ علوم کی وضاحت ہو گئی تو شیعہ ائمہ اہلبیت علیہم السلام کی طرف متوجہ ہوئے، تاکہ ان کے عقائد کے مطابق دین اور فقہ کو حاصل کر سکیں تاکہ دوسروں سے فرق واضح ہو جائے اور ان سے دوری اختیار کر سکیں، جن کے خلاف حسینؑ نے قیام کیا تھا۔

ائمہ علیہم السلام نے ایسے وقت میں جگہ جگہ اپنی تعلیمات کو شیعوں میں عام کرنے کو ضروری جانا اور ان کے عقائد اور فقہ میں محبت اور بغض، تولی و تبری کے بارے میں تعلیمات سکھاتے ہوئے رشد کی کوشش کی تاکہ ان کے پیروکار دوسرے سے بے نیاز ہو سکیں۔ اسی لیے جناب حضرت امام محمد باقرؑ نے امام جعفر صادقؑ کو وصیت کی۔ ہشام بن سالم نے حضرت جعفر صادقؑ سے روایت کی ہے کہ جس وقت میرے پدر بزرگوار حالت احتضار میں تھے، فرمایا، ”میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میرے اصحاب کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔“ میں نے کہا، ”میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ خدا کی قسم! میں ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک نہیں کروں گا۔ اگر ایک شخص بھی شہر میں ہو تو اسے کسی دوسرے سے پوچھنے

کی نوبت نہیں آئے گی۔“

(الکافی، ج ۱، ص ۳۰۶)

امام علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کیا اور شیعوں کو بھی اپنے علما کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا اور شیعوں نے رجوع بھی کیا۔ ان میں سے ایک گروہ نے فتویٰ دینے کی ذمہ داری قبول کی۔ خود ائمہ علیہم السلام نے ان میں سے بعض کو تربیت دی تھی۔ جیسے سید شعیب نے روایت کی ہے کہ میں نے امام صادق سے پوچھا، ”بعض اوقات ہمیں کچھ پوچھنا پڑتا ہے۔ پس اس وقت ہم کس سے پوچھیں؟“ امام نے فرمایا، ”اسدی یعنی ابا بصیر سے پوچھیں۔“

(اختیار معرفت الرجال، ج ۱، ص ۴۰۰)

اس طرح عبداللہ بن ابی یعفور کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہر وقت آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اور ہر وقت آپ کے پاس حاضر ہونا ممکن نہیں۔ ایسی صورت حال میں کچھ لوگ جو ہم میں سے ہیں۔ ہم سے پوچھتے ہیں اور میں ان کے ہر سوال کا جواب بھی نہیں دے پاتا۔ پس امام نے فرمایا کہ محمد ابن مسلم اشقی سے رجوع کریں کیونکہ انہوں نے میرے والد بزرگوار سے تعلیم حاصل کی ہے اور ان کے نزدیک ان کا ایک خاص مقام تھا۔

(وسائل، ج ۱۸، ص ۱۰۵)

علی ابن مسیب نے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت امام رضا سے پوچھا، میرا گھر دور ہے اور میں ہر وقت آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں اپنے دینی

فقہ کس سے حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا، زکریا ابن آدم فتنی سے حاصل کرو۔ جس کی وجہ سے دین و دنیا کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ علی بن مسیب نے کہا جب میں واپس آیا تو زکریا ابن آدم کی خدمت میں گیا اور جن چیزوں کی مجھے ضرورت تھی وہ ان سے پوچھی۔

(وسائل الشیعہ، ج ۱۸، ص ۱۰۶)

عبدالعزیز بن مہدی کی معتبر میں ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت امام رضاؑ سے میں نے پوچھا، میں ہر وقت آپ کی زیارت سے مشرف نہیں ہو سکتا، اس لیے میں دینی تعلیمات کس سے حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: یونس ابن عبدالرحمان سے حاصل کریں۔

(وسائل، ج ۱۸، ص ۱۰۷)

اسی طرح دوسرے گروہوں سے رجوع کرنے کے بارے میں بھی روایتیں وارد ہوتی ہیں۔ مثلاً حارث بن مغیرہ اور زرارہ بن اعین، مفضل ابن عمر، عمری اور اس کا بیٹا وغیرہ کی طرف رجوع کرنے کو کہا گیا۔ اسی طرح بہت ساری احادیث موجود ہیں جس کا شمار کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔

اسی طرح عام راویوں سے بھی رجوع کرنے کے بارے میں روایات وارد ہوئی ہیں، مگر ان میں کسی خاص شخص کو معین نہیں کیا گیا ہے۔ بہت سارے نصوص میں ایک توحیح (خط) مشہور ہے جو امام منتظر کے عصر غیبت صغریٰ کے وسط یا اوائل میں صادر ہوا ہے، ”فاما الحوادث الواقعة فارجعوا فیہا

الی رواۃ احادیثنا فانہم حجتی علیکم و انا حجة اللہ“

(وسائل، ج ۱۸، ص ۱۰۱)

اسی طرح امام ہادی سے بھی ایسی ہی روایت نقل کی گئی ہے۔

آخر کار فقہ میں شیعوں کے لیے ترقی ہوئی اور دوسروں سے بے نیازی حاصل ہوئی۔ محمد بن حکیم کی معتبر میں ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ ابن جعفر سے پوچھا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، دین میں ہم نے تفقہ حاصل کیا۔ آپ کی وجہ سے خدا نے ہمیں دوسروں سے بے نیاز کیا ہے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض لوگ مجلس میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ یہ خدا نے آپ کی وجہ سے ہم پر احسان کیا ہے۔ حضرت امام ہادی نے جو خط احمد ابن حاتم اور اس کے بھائی کے نام لکھا ہے، ”تم دونوں اپنے دین کے بارے میں اس شخص کی طرف بڑھو جو ہماری محبت میں تم سے بڑھ کر ہے اور ہر اس شخص کی طرف جو ہماری حکومت کے بارے میں زیادہ کوشش کرنے والا ہے۔ ایسے دونوں افراد تم دونوں کے لیے کافی ہوں گے، انشاء اللہ تعالیٰ۔“

(وسائل الشیعہ، ج ۱۸، ص ۱۱۰)

بعض اوقات غیر شیعہ بھی اپنے مشکل مسائل میں شیعہ فقہاء طرف رجوع کرتے تھے کیونکہ شیعہ فقہاء احکام کو صاف چشمہ ولایت سے اخذ کرتے ہیں جو کبھی گدلا نہیں ہو سکتا۔ محمد ابن مسلم نے اپنی موثق میں لکھا ہے کہ ایک رات میں چھت پر سویا ہوا تھا اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دیکھا کہ

ایک خاتون کھڑی ہے۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جس کی شادی ہوئی تھی۔ اسے دردزہ ہوا اور وہ اسی حالت میں مر گئی اور بچہ اس کے پیٹ میں حرکت کر رہا ہے۔ اب اس صورت میں، میں کیا کروں؟ یہ سن کر میں نے کہا، اے کنیز خدا! اس جیسے مسائل کو حضرت امام محمد باقر سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میت کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکالا جائے۔ محترمہ! آپ بھی ایسا ہی کریں۔ مگر یہ بتائیں کہ میں ایک گمنام شخص ہوں۔ تمہیں کس نے میری طرف بھیجا؟ تو خاتون نے کہا، خدا آپ پر رحم کرے، میں ابوحنیفہ کے پاس گئی تھی، جو صاحب نظر ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن تم محمد بن مسلم ثقفی کے پاس چلی جاؤ کیونکہ وہ ایسے مسائل کو بہتر جانتا ہے جب وہ تمہیں بتادے تو مجھے اس کی اطلاع دینا۔ میں نے اس سے کہا کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ۔ خدا خیر کرے۔“ وہ چلی گئی۔ جب میں دوسرے دن مسجد میں گیا تو ابوحنیفہ اس مسئلے کے بارے میں اپنے اصحاب سے گفتگو کر رہا تھا۔ یہ سن کر مجھے ہنسی آئی تو انہوں نے مجھ سے کہا، خدا را مجھے معاف کرو اور زندگی گزارنے دو۔

(رجال کشی، ص ۱۳۶)

حضرات ائمہ علیہم السلام نے علم اور احادیث کو لکھنے کی تاکید کی ہے تاکہ اس طرح علم کی حفاظت ہو سکے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں خصوصاً زمانہ غیبت میں کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کو سوائے حدیث لکھنے کے

اور کوئی پناہ گاہ نہیں۔ ابی بصیر کی معتبر میں لکھا ہے کہ میں نے حضرت اباعبداللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علم کو لکھو کیونکہ اسے لکھے بغیر تم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔

(وسائل الشیعة، ج ۱۸، ص ۵۶)

عبید بن زرارہ کی موقوف میں ہے کہ حضرت ابو عبداللہ نے کہا کہ علم کی کتابت کے ذریعے حفاظت کرو، کیونکہ عنقریب تم اس کے محتاج ہو جاؤ گے۔

(وسائل الشیعة، ج ۱۸، ص ۵۶)

مفضل بن عمر کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو عبداللہ نے فرمایا، علم کو لکھ لو اور اپنے دینی بھائیوں میں اسے رائج کرو۔ اگر تم مرو گے تو تمہارے ورثا کو تمہاری کتابیں وراثت میں ملتی چاہئیں، کیونکہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں لوگ صرف کتابوں سے مانوس ہو سکیں گے۔

(وسائل الشیعة، ج ۱۸، ص ۵۶)

اس کے بعد شیعہ فقہانے احکام شریعت پر مبنی کتب کی تالیف شروع کی تاکہ لوگ اپنے اعمال کی ادائیگی میں ان کے مطابق عمل کریں۔ یہ کتب رسائل عملیہ کی مانند تھیں۔ انہیں میں سے ایک ”یوم ولیلة“ ہے جو یونس بن عبدالرحمان نے تصنیف کی ہے جو حضرت امام رضا کے اصحاب میں سے ہیں۔ بہت ساری نصوص آپ سے نقل کی ہیں اور اس پر عمل کی تاکید کی ہے۔

(وسائل الشیعة، ج ۱۸، ص ۷۱-۷۲)

اسی طرح کتاب ”یوم ولیلة“ جو کتاب التادیب کے نام سے مشہور

ہے، ان کے شاگرد احمد بن عبداللہ بن مہران جو ابن خانہ کے نام سے مشہور ہیں نے لکھی ہے۔ اور علی بن بابویہ قمی شیخ صدوق کے والد نے ایک رسالہ لکھا، جو غیبت صغریٰ کے زمانے میں فوت ہوئے۔

کتاب ”متمسک بحبل آل رسول“ جسے ابن ابی عمیل العمان جو شیخ ابن بابویہ قمی کے معاصر ہیں نے لکھی ہے، اسی طرح کتاب ”المختصر الاحمدی فی الفقہ الاحمدی“ ابن جنید کی تصنیف ہے جو ان دونوں کے قریب کے زمانے کے ہیں اور اسی طرح کتاب من لا یخضرہ الفقہ جسے شیخ صدوق نے غیبت کبریٰ کے اوائل میں لکھا ہے۔ رسالہ عملیہ ہی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے فقیہ سے پوچھنا ممکن نہ ہو وہ اپنے احکام دین کو اس میں دیکھ کر عمل کریں۔ یہ کتاب شیخ صدوق کے فتاویٰ پر مبنی ہے۔

اس کے بعد علما کے ایک گروہ کے بعد ایک گروہ نے رسالہ ہائے عملیات لکھنا شروع کیا جیسے شیخ مفید کی مفتح، شیخ طوسی کی ”نہایہ فی مجرا الفقہ والفتویٰ“ وغیرہ مشہور رسائل عملیہ ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔

شیعہ علمی حوزوں میں علم فقہ کی تاریخ

احکام شریعت کا علم وہ علم ہے جس کے ذریعے خدا کی طرف سے لائے ہوئے اسلامی قانون کی صحیح طریقے سے پہچان ہوتی ہے۔ اس کی کوشش صدر اسلام سے ہی راویان حدیث نے شروع کی۔ انہوں نے حضور اکرمؐ اور ائمہ معصومینؑ کی روایات کو جمع کر کے احادیث پر مبنی کتابیں لکھیں اور ان کتب کو آج ہم اصول اربع مائة (چار سو اصلی کتب) کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر یہ تمام کتابیں چار کتب: اصول کافی، تہذیب، من لا یحضرہ الفقیہ اور استبصار کی صورت میں محفوظ کر لی گئیں۔ بعد میں ان کی تمام فقہی احادیث کو ”وسائل الشیعہ“ اور دوسری کتب کی صورت میں جمع کیا گیا ہے۔

اس طرح علم شریعت کی بنیاد قرآن اور حدیث رسول ہے اور ابتدا میں اس کا حصول بہت آسان تھا اور لوگ اپنے تمام مسائل کا حل حدیث سے حاصل کرتے تھے کیونکہ قرآن صرف اجمال اور حدیث اس کی تفسیر ہے، لیکن زمانہ گزرتا گیا اور حدیث سے احکام کا حصول عام لوگوں کی دسترس سے باہر رہ گیا اور اس میں استدلال اور استنباط کا عمل دخل شروع ہوا جو صدر اسلام سے

زمانے کے لحاظ سے دور ہونے کا فطری نتیجہ تھا اور حضرات ائمہ علیہم السلام نے اس طرح استنباط اور استدلال کرنے کا حکم فرمایا۔ اس طرح علم فقہ وجود میں آیا جو دراصل قرآن کے حکم ”ما کان المؤمنون لینفروا کافۃً فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون“ پر عملدرآمد تھا۔ اس طرح علم حدیث سے علم فقہ وجود میں آیا اور نشوونما پائی اور آج کے زمانے میں اس علم نے اس قدر وسعت پائی ہے کہ اس کے تمام ابواب میں مہارت (اسپیشلائزیشن) حاصل کرنے کے لیے انسان کی پوری عمر صرف ہوتی ہے۔ پھر بھی اس کے تمام ابواب پر دسترس حاصل نہیں ہوتی۔ علم فقہ کی وسعت کو مرحوم نجفی کی کتاب جواہر الکلام میں کما حقہ محسوس کیا جاسکتا ہے۔ البتہ گزرتے زمانے کے ساتھ نئی فروعات بھی وجود میں آتی جا رہی ہیں اور ہر روز جدید مسائل وجود میں آ کر فقہی حکم کے طلب گار ہوتے ہیں اور یہ مسائل مراجع کرام کے ذریعے حوزہ ہائے علمی میں درس خارج کے عنوان سے دقیق استدلال کے ساتھ مورد تحقیق قرار پاتے ہیں۔

یہی وہ علم ہے جس میں احکام شریعت کی استنباط کی جاتی ہے۔ اس علم کو فقہ کہا جاتا ہے، جسے قرآن نے لیتفقہوا فی الدین کہہ کر اس کی طرف متوجہ کیا ہے اور جو شخص اس شعبے میں اجتہاد یعنی اسپیشلائزیشن کرتا ہے، اسے فقیہ یا مجتہد کہا جاتا ہے جبکہ اس کے لیے دوسرے علوم جیسے ادبیات، اصول، رجال،

درایت وغیرہ اس علم کے مقدمات اور وسائل شمار ہوتے ہیں جو آج کل ایک
میلحدہ حیثیت سے مورد بحث قرار پاتے ہیں۔

شیعہ فقہ کی تاریخ غیبت صغریٰ کے زمانے سے شروع ہوتی ہے یعنی
۲۶۰ھ سے ۳۲۰ھ ہجری کے زمانے سے، کیونکہ غیبت صغریٰ سے پہلے کا زمانہ
حضرت ائمہ اطہار کے ظہور کا زمانہ تھا اور لوگ اپنی ضروریات کو خود ائمہ علیہم
السلام سے پوچھا لیا کرتے تھے لیکن تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود حضرات
ائمہ کے ظہور کے دور میں بھی فقہاء اور مجتہدین موجود تھے جو فتویٰ دینے کی
اہلیت رکھتے تھے اور خود ائمہ اطہار انہیں فتویٰ دینے کی ترغیب اور تشویق دیتے
تھے، لیکن حضرت ائمہ معصومین کی موجودگی میں انہیں کوئی خاص اہمیت حاصل
نہیں تھی اور جب لوگ حضرات ائمہ تک نہیں پہنچ پاتے تھے تو انہیں فقہاء کی
طرف رجوع کیا جاتا تھا اور خود یہ فقہاء بھی اپنی مشکلات کو حضرات ائمہ سے
معلوم کرتے تھے۔ اس طرح علم فقہ کے مندرجہ ذیل مختلف ادوار سامنے آتے
ہیں:

۱۔ شیخ طوسی سے قبل کا دورہ: اس دوران میں مسائل فقہی احادیث اور
اخبار ائمہ کے نقل کی صورت میں تھے۔ اور یہ روش امام محمد باقر اور امام جعفر
صادق کے دروس کی صورت میں تھی جو تحریری صورت میں اصول اربع مائة کی
شکل میں مدون ہوئے۔ آج کے زمانے میں ہمارے پاس ان کی اصل موجود
نہیں لیکن ان کی احادیث شیعوں کی کتب اربعہ میں جمع کی گئی۔

۲۔ شیخ طوسی وفات ۴۶۰ھ کا زمانہ: اس زمانے میں یعنی تقریباً گیارہ سو سال قبل نجف اشرف کے حوزہ علمی کی بنیاد پڑی اور فقہ اہلبیت ایک خاص اسلوب کے ساتھ بنیاد پذیر ہوا۔ اس کی اعلیٰ مثال خود شیخ طوسی کی کتب تہذیب اور الاستبصار کی صورت میں ہے۔ یہ روش دسویں صدی تک جو شہید ثانی کے زمانے سے مقارن ہے جاری رہی۔

۳۔ شہید ثانی ۹۶۵ھ کا زمانہ: یہ دوران تقریباً ایک صدی بعد تک جاری رہا، اس دوران محقق کرکی نے حوزہ علمیہ اصفہان کی بنیاد رکھی، جہاں فلسفہ میں میرداماد، ملا صدرا اور حدیث میں ملا محمد باقر مجلسی اور ملا محمد تقی مجلسی جیسی علمی ہستیاں پرورش پائیں۔

۴۔ وحید بھبھانی کا زمانہ: اس دوران میں آپ نے حوزہ علمیہ کربلا میں علم فقہ، اصول فقہ اور اجتہاد کا دفاع کرتے ہوئے ثابت کیا کہ اجتہاد و فقہاء کی بنیاد اصول فقہ پر قائم ہے، جو حضرات صادقین کی تعلیمات سے اخذ ہے کہ حضرات ائمہ کا ارشاد ہے: ”ہم تمہیں اصول بتادیتے ہیں اس کی جزئیات تم خود اخذ کر لینا۔“

۵۔ مکتب سامرہ کا زمانہ: اس خاص اسلوب کی تدریس میرزای بزرگ نے کی اور حوزہ علمیہ سامرہ کی بنیاد رکھی جو بعد میں مکتب سامرائی کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ ہی ہیں جنہوں نے تمباکو کے حرام ہونے کا فتویٰ دے کر سیاست میں حوزہ علمیہ کی دخالت کو عروج پر پہنچایا۔ یہ حوزہ ۱۳۱۸ھ تک قائم تھا۔

۶۔ شیخ عبدالکریم حارّی کا زمانہ: حضرت شیخ عبدالکریم حارّی نے حوزہ علمیہ قم کی تاسیس کی اور اسے نئی زندگی دی۔ آپ کے بعد حضرت آیت اللہ بروجردی نے اسے اس کی ارتقائی منزل سے ہمکنار کیا۔ تدریس اور استنباط و اجتہاد میں آپ کی روش ایک خصوصی اہمیت کی حامل رہی۔ اسی دوران فقہ مقارن کو زندگی ملی۔

بعض لوگوں کی نظر میں اس حوزہ میں فقہ کا سلسلہ اس کے آخری سو سالوں میں رک گیا تھا، لہذا اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ تدریسی روش اور اس کی تحقیق میں ایک انقلابی اقدام کیا جائے۔

علم اصول کی تاریخ

جیسا کہ علم فقہ علم حدیث سے وجود میں آیا۔ اسی طرح اصول کا علم، علم فقہ سے وجود میں آیا۔ جس وقت فقہی مسائل عمیق اور دقیق ہوتے گئے اور دلیل کی طلب کی طرف رجحان پایا تو استنباط ممکن نہیں تھا اور یہی وہ عناصر ہیں جو علم اصول کی بنیاد ہیں۔ بنیادی طور پر حضرات صادقین یعنی امام محمد باقر اور امام جعفر صادقؑ نے اخبار علاجیہ کے عنوان سے برأت اور استصحاب کا صحیح خاکہ پیش کیا جس کی بناء پر فقہاء عظام نے تجزیہ و تحلیل کرتے ہوئے بیشتر استحکام حاصل کیا۔

اسی کے بارے میں معصوم کا ارشاد ہے: ہم اصول بتا دیتے ہیں، تم فروع خود حاصل کرنا۔

علم اصول کے تاریخی مراحل

۱۔ یہ علم ابتدا میں فقہای امامیہ کی کتب میں منتشر صورت میں موجود تھا۔
جیسے ابن ابی عقیل عمانی، ابن جنید اسکافی، جو چوتھی صدی ہجری میں گزرے
ہیں۔

۲۔ دوسرے مرحلے میں شیخ مفید علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی اور ابن ابی
عقیل اور اسکافی کے نظریات کی تنقید کرتے ہوئے ان کی اصلاح کی۔

۳۔ تیسرے مرحلے میں سید مرتضیٰ نے ایک کتاب الذریعہ لکھی اور شیخ
طوسی نے ”العدۃ فی الاصول“ نامی کتاب تالیف کی جو سید مرتضیٰ کے کچھ عرصے
بعد لکھی۔

۴۔ چوتھے مرحلے میں استاد وحید بھبھانی نے حوزہ کربلا میں فقہ واجتہاد کو علم
اصول کی بنیاد پر مستحکم کیا، جو اس کے بعد کے علما کے کام کی بنیاد بن گیا اور تمام
مقدماتی تحصیلات علم اصول کی بنیاد پر قرار پائیں۔

۵۔ پانچواں دور: شیخ انصاری ۱۳۸۱ھ کے بعد کا زمانہ جس میں علم اصول
ایک معقول علم کی صورت اختیار کر گیا اور یہ زمانہ مرحوم کمپانی کے دروس کے
ساتھ عروج پر پہنچا۔ آہستہ آہستہ فلسفہ بھی علم اصول کا جزو لاینفک بن گیا اور
اس کے بہت زیادہ فروع بنائے گئے اور بڑی وسعت پائی اور طلبہ نے
دوسرے شعبوں کو چھوڑ کر اس کی طرف زیادہ توجہ دی اور بعض اوقات مفروضہ
مسائل پر بحث و مناظرہ بھی ہونے لگا۔ نجف اشرف کے حوزہ علمیہ کے آخری

دور میں ایسی صورت حال تھی کہ اس میں اصول کے طویل دورانیے رہے جس کی مانند میں بھی تدریس شروع ہوئی۔

۶۔ چھٹا مرحلہ: یہ دورہ حضرت آیت اللہ بروجردی کے بعد کا زمانہ ہے۔ اگرچہ آپ اس علم کے تبحر تھے مگر اس کی طرف کم توجہ دیتے تھے لیکن ایسا بھی نہیں کہ مسائل فقہی کے حصول میں شک و تردید کی گنجائش رکھتے ہوں۔ آپ مفروضہ مسائل کی طرف نہیں جاتے تھے بلکہ مسائل فقہی کو براہ راست احادیث سے حاصل کرتے تھے۔ آپ کا اپنا ایک اسلوب تھا۔

اجتہاد اور اس کی اقسام

شریعت اسلامی کے احکام اس کے منابع اربعہ سے چھان بین کر کے فتویٰ بیان کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کو اجتہاد کہا جاتا ہے، جو احکام اسلامی کے بارے میں مہارت یا اسپیشلائزیشن رکھنے کے معنوں میں ہے اور جو شخص یہ صلاحیت اور مہارت حاصل کرتا ہے اسے مجتہد کہتے ہیں۔

کسی بھی مجتہد کو اجتہاد کی منزل پر فائز ہونے کے لیے مندرجہ ذیل علوم پر مہارت حاصل کرنی ضروری ہوتی ہے۔ صرف و نحو، لغت عربی، علم معانی بیان، منطق، کلام، اصول فقہ، تفسیر، حدیث اور رجال۔

مجتہد کو فقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مجتہد کی دو قسمیں ہوتی ہیں: مجتہد مطلق اور

مجتہد متجزی۔

۱۔ مجتہد مطلق: وہ مجتہد ہے جو احکام اسلام یعنی فقہ کے تمام ابواب پر استنباط کرنے کی قدرت رکھتا ہو، چونکہ علوم اور مسائل فقہی کی وسعت کی وجہ سے اکثر یہ مرحلہ مجتہد کی عمر کے آخری مرحلے میں حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء اجتہاد اور تقلید کی تجزی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔

۲۔ مجتہد متجزی: وہ مجتہد جس نے احکام اسلامی میں سے چند ایک ابواب میں یا چند خصوصی ابواب میں استنباط کرنے کی قدرت حاصل کی ہو۔ استنباط کی یہ قدرت بہت جلد حاصل ہو جاتی ہے۔

اجتہاد کے سرچشمے

اجتہاد کے چار منابع ہیں جن کی بنیاد پر حکم شرعی بیان کیا جاتا ہے:

۱۔ قرآن کریم: احکام الہی کے اخذ کرنے کا اہم ترین منبع قرآن کریم ہے یہاں تک کہ احادیث و روایات کے صحیح و غلط ہونے کا معیار بھی قرآن کریم ہے کیونکہ قرآن کی نص کے خلاف ہر روایت کو رد کیا جاتا ہے۔

۲۔ سنت رسول: سنت رسول اکرم اور اس کے ساتھ حضرات ائمہ معصومین کی سیرت جو ان کی احادیث، افعال اور تقریر پر مشتمل ہے تقریر وہ افعال ہیں جو حضرات معصومین میں سے کسی ایک کے سامنے بجلائے جائیں اور یہ حضرات منع نہ کریں تو یہ اس عمل کی جواز کی دلیل ہے۔

۳۔ اجماع: معاصر علماء کے نظریے میں وہی اجماع حجت ہے جو قول

معصوم کو کشف کرنے والا ہو۔ یعنی علما کے ایک ایسے گروہ کا اجماع جو کسی ایک فتویٰ پر اتفاق کریں اور یہ اتفاق کلام معصوم سے آگاہی کی بنیاد پر ہو۔

۴۔ عقل: وہ قطعی دلائل جن کا ادراک عقل کرتی ہے۔ وہ حکم شرعی کا ملاک ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ مسائل عقلی مستقلاات ہوتے ہیں یعنی جن کے سمجھنے کے لیے عقل کافی ہے۔ جیسے ظلم کی برائی اور نیکی کرنے کی اچھائی وغیرہ۔

زمانہ غیبت کبریٰ تک حضرات نواب اربعہ کا دور رہا جس میں یہ حضرات براہ راست امام سے احکام حاصل کر کے عوام تک پہنچاتے تھے اور آپ کے آخری نائب ابوالحسن علی بن محمد سمری کی وفات ۳۲۹ھ میں ہوئی۔ نواب اربعہ کے نام یوں ہیں: (۱) عثمان بن سعید ابو عمرو (۲) ابو جعفر محمد ابن عثمان (۳) ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی (۴) ابوالحسن علی بن محمد سمری ان کے بعد سے لوگوں نے امام زمانہ کے حکم کے مطابق جس میں آپ نے فارجمعو الی رواۃ احادیثنا کہہ کر حکم دیا کہ علما کی طرف رجوع کیا جائے۔ خصوصاً ان علما کی طرف جو حدیث کی روایت کے ساتھ ساتھ درایت کے ذریعے صحیح ترین حکم اخذ کر کے لوگوں کے لیے بیان کرتے تھے، جو فقیہ کہلاتے ہیں۔

چونکہ فقہ اور تدریس فقہ کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ غیبت کبریٰ سے لے کر عصر حاضر تک کے فقہائے

کرام کی ایک مسلسل فہرست تحریر کی جائے۔ یہ یاد رہے کہ فقہائے شیعہ کی تعداد صرف اسی پر منحصر نہیں بلکہ اس فہرست میں سب سے زیادہ مشہور و معروف فقہاء کے اسمائے گرامی تحریر کیے گئے ہیں جبکہ ان کے علاوہ بھی بڑے بڑے علماء اور فقہاء بھی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں گرانقدر خدمات انجام دی ہیں جیسے آیت اللہ میلانی، آیت اللہ خوانساری، آیت اللہ نجفی مرعشی، آیت اللہ اراکی اور آج بھی ہمارے حوزہ ہائے علمی میں ایسے ایسے فقیہ اور علماء موجود ہیں جنہوں نے رسالت انبیاء کی تحریک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے اور علوم اہلبیت کو نئی نسلوں کو منتقل کر رہے ہیں، جسے ہم نے فہرست کے آخر میں ذکر کیا ہے۔

| نمبر شمار | نام | لقب | تاریخ وفات | جائے ولادت | مشہور کتاب |
|-----------|-----------------------------|----------------|---------------|--|-----------------------|
| ۱ | علی بن بابویہ | صدوق اول | ۳۲۹ھ | قم | الفقہ الرضوی |
| ۲ | حسن بن علی بن عقیل | ابن عقیل عمانی | ۳۲۹ھ | عمان | المستمسک بحبل آل رسول |
| ۳ | محمد بن علی بن بابویہ | شیخ صدوق | ۳۸۱ھ | قم | من لا یحضرہ الفقیہ |
| ۴ | محمد بن احمد بن جنید اسکافی | ابن جنید | ۳۸۱ھ | سکاف، بصرہ تہذیب الشیعہ اور نہروان کے درمیان | لاحکام الشریعہ |
| ۵ | محمد بن محمد بن نعمان | شیخ مفید | ۴۱۳ھ | بغداد | مقنعہ |
| ۶ | علی بن حسین بن موسیٰ | سید مرتضیٰ | ۴۳۶ھ | بغداد | الانتصار |

| | | | | | |
|----|--|------------------------|------|---------------------|--|
| ۷ | ابو جعفر محمد بن حسن طوس | شیخ الطائفہ شیخ طوس | ۴۶۰ھ | طوس | تہذیب الاماکن، استبصار |
| ۸ | شیخ عبدالعزیز بن براج | ابن براج | ۴۸۱ھ | مصر | مہذب |
| ۹ | شیخ ابوالصلاح نقی بن نجم الدین | حلبی | ۴۴۷ھ | حلب | الکافی |
| ۱۰ | حمزہ بن عبدالعزیز بلخی | سلار | ۴۶۳ھ | طبرستان مازندران | مراجم |
| ۱۱ | حمزہ بن علی بن زہرہ | ابوالمکارم ابن زہرہ | ۵۸۵ھ | حلب | الغنیہ |
| ۱۲ | محمد بن علی بن حمزہ | ابن حمزہ | ۵۸۵ھ | طوس | الوسلیہ |
| ۱۳ | محمد بن ادریس حلی | ابن ادریس | ۵۹۸ھ | حلب | سرائر |
| ۱۴ | جعفر بن حسن بن تکیمی بن سعید | محقق حلی | ۶۷۶ھ | حلب | شراعی المختصر النافع |
| ۱۵ | حسن بن یوسف بن علی بن مطہر | علامہ حلی | ۷۲۶ھ | حلب | قواعد، تذکرہ الفقہاء، مختلف منتهی |
| ۱۶ | محمد بن حسن بن یوسف | فخر المحققین | ۷۷۱ھ | حلب | ایضاح الفوائد |
| ۱۷ | شمس الدین محمد بن مکی | شہید اول | ۷۸۶ھ | لبنان | لمعہ، بیان، دروس، ذکرئی |
| ۱۸ | مقداد بن عبداللہ بن محمد بن سبوری حلی | فاضل مقداد | ۸۲۶ھ | حلب | تنقیح الراجح |
| ۱۹ | ابوالعباس احمد بن فہد حلی | ابن فہد | ۸۴۱ھ | حلب | مہذب، البارغ فی شرح، المختصر النافع |

| | | | | | |
|----|---|------------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|
| ۲۰ | علی بن محمد بن ہلال جزائری | شیخ الاسلام | ۹۳۷ھ | جزائر نزد بصرہ | الدر الثریہ |
| ۲۱ | علی بن حسین بن عبدالعالی کرکی | محقق ثانی محقق کرکی | ۹۴۰ھ | لبنان کرک | جامع التماسد، شرح ارشاد |
| ۲۲ | زین الدین علی بن احمد عالی | شہید ثانی | ۹۶۶ھ | لبنان | شرح لمعہ، مسالک الافہام |
| ۲۳ | محسن بن مرتضیٰ | فیض کاشانی | ۹۸۸ھ | کاشان | مفتاح الشرائع |
| ۲۴ | احمد بن محمد اردبیلی | مقدس اردبیلی محقق اردبیلی | ۹۹۳ھ | اردبیل | مجمع الفائدة، البرہان |
| ۲۵ | شیخ بہاء الدین محمد عالی | شیخ بہائی | ۱۰۳۰ھ | لبنان | جامع عباس جبل التین فی احکام الدین |
| ۲۶ | ملا محمد باقر سزواری | محقق سزواری | ۱۰۹۰ھ | سزواری | کفایۃ الفقہ |
| ۲۷ | حسن بن جمال الدین محمد خوانساری | خوانساری | ۱۰۹۸ھ | خوانسار | مشارق الشمس فی شرح الدروس |
| ۲۸ | محمد باقر بن محمد بھبھانی | وحید بھبھانی | ۱۱۱۸ھ | بھبھان | شرح مفتاح الشرائع |
| ۲۹ | محمد بن حسین بن جمال الدین خوانساری | آقای جمال خوانساری | ۱۱۲۱ھ | خوانسار | حاشیہ شرح لمعہ |
| ۳۰ | محمد بن حسین بن محمد اصفہانی | فاضل ہندی | ۱۱۳۷ھ | اصفہان | کشف الملام |
| ۳۱ | شیخ یوسف بحرانی | صاحب حدائق | ۱۱۸۶ھ | بحرین | الحدائق الناضرہ |
| ۳۲ | سید محمد مہدی بحر العلوم | بحر العلوم | ۱۲۱۲ھ | کربلا | منظومہ فقیہ، مصابح |
| ۳۳ | شیخ جعفر کاشف الغطا | کاشف الغطا | ۱۲۴۸ھ | نجف | کشف الغطاء |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|------------------------|-------|--------------|---|
| ۳۴ | شیخ محمد حسن نجفی | صاحب جواہر | ۱۲۶۶ھ | نجف | جواہر الکلام |
| ۳۵ | محمد بن ابی ذر زرقی | زرقی اول | ۱۲۰۹ھ | زرق کاشان | معمد الشیعہ |
| ۳۶ | ابوالقاسم بن محمد حسن گیلانی | میرزای قمی | ۱۲۳۱ھ | گیلان | جامع الشتات |
| ۳۷ | احمد بن محمد زرقی | زرقی دوم | ۱۲۳۳ھ | زرق کاشان | مستند الشیعہ |
| ۳۸ | شیخ مرتضیٰ انصاری | شیخ اعظم | ۱۲۸۱ھ | دزفول | مکاسب، طہارت |
| ۳۹ | سید محمد جواد عالی | صاحب مفتاح الکرام | ۱۳۶۹ھ | نجف | مفتاح الکرامہ |
| ۴۰ | حاج میرزا محمد حسن شیرازی | میرزای شیرازی اول | ۱۳۱۲ھ | شیراز | حاشیہ بر نہجات العباد |
| ۴۱ | سید محمد کاظم طباطبائی | فقیہ یزدی | ۱۳۲۸ھ | یزد | عروة الوثقی، حاشیہ مکاسب |
| ۴۲ | ملا محمد کاظم خراسانی | اخوند خراسانی | ۱۳۲۹ھ | مشہد | حاشیہ بر مکاسب |
| ۴۳ | میرزا محمد تقی شیراز | میرزای شیرازی دوم | ۱۳۳۸ھ | شیراز | حاشیہ مکاسب صلاۃ الجمعة |
| ۴۴ | میرزا فتح اللہ بن محمد غازی شیرازی | شیخ الشریعہ اصفہانی | ۱۳۳۹ھ | اصفہان | اقاضۃ القدر |
| ۴۵ | میرزا محمد حسین نائینی | میرزا نائینی | ۱۳۵۵ھ | نائین | وسیلۃ النجاة، تنزیہ المملہ وتنبیہ الاممہ |
| ۴۶ | شیخ عبدالکریم حارّی | حاج شیخ موسس | ۱۳۵۵ھ | مید | ذرا القوائد |
| ۴۷ | سید ابوالحسن اصفہانی | محقق اصفہانی | ۱۳۶۵ھ | اصفہان | وسیلۃ النجاة |

| | | | | | |
|----|-------------------------|--------------------------|-------|--------|---------------------------------------|
| ۴۸ | سید حسین طباطبائی | آیۃ اللہ بروجرودی | ۱۳۸۰ھ | بروجرد | مجازات مریش |
| ۴۹ | سید محسن حکیم | آیۃ اللہ حکیم | ۱۳۹۰ھ | لبنان | منہاج الصالحین، منتسک، امر و نواہی |
| ۵۰ | سید روح اللہ خمینی | امام خمینی | ۸۹ھ | قم | تحریر الوسیلہ |
| ۵۱ | سید ابوالقاسم خونی | خونی | ۹۰ھ | نجف | البيان |
| ۵۲ | محمد نضل لنگرانی | آیۃ اللہ فاضل لنگرانی | حیات | قم | |
| ۵۳ | سید علی سیدتانی الحسینی | آیۃ اللہ سیدتانی | حیات | نجف | |
| ۵۴ | ناصر مکارم شیرازی | مکارم | حیات | قم | تفسیر نمونہ |
| ۵۵ | جواد تبریزی | آیۃ اللہ تبریزی | حیات | قم | |
| ۵۶ | وحید خراسانی | آیۃ اللہ خراسانی | حیات | قم | |
| ۵۷ | سید سعید الحکیم | آیۃ اللہ حکیم | حیات | نجف | |
| ۵۸ | سید علی خامنہ ای | آیۃ اللہ خامنہ ای | حیات | تہران | |
| ۵۹ | سید محمد احمد مددی | آیۃ اللہ مددی | حیات | قم | |
| ۶۰ | بشیر حسین نجفی | آیۃ اللہ بشیر نجفی | حیات | نجف | |
| ۶۱ | سید صادق شیرازی | آیۃ اللہ شیرازی | حیات | قم | |

ماخذ و مدارک

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| ۱- قرآن مجید | ۱۷- الفہرست (طوق) |
| ۲- نہج البلاغہ | ۱۸- الفہرست ابن ندیم |
| ۳- صحیفہ کاملہ | ۱۹- فروع کافی |
| ۴- نہج البلاغہ میں امام الصادق | |
| ۵- بحار الانوار | |
| ۶- وسائل الشیعہ | |
| ۷- من لا یحضرہ الفقیہ | |
| ۸- مستدرک الوسائل | |
| ۹- الحیاء | |
| ۱۰- بخاری | |
| ۱۱- مسلم | |
| ۱۲- سنن نسائی | |
| ۱۳- ائمہ و علم اصول | |
| ۱۴- مجلہ افق حوزہ | |
| ۱۵- معجم الادبا | |
| ۱۶- میزان الاعتدال | |

رِشَاءِ مُحَسِّنِ الْحَكِيمِ

از قلم

شاعر آل محمد جناب نسیم امر و ہوی اعلی اللہ مقامہ

پیش حرف

۱۹۷۷ء یا ۷۸ء میں ”رثاء محسن الحکیم“ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے پورا مرثیہ کئی بار پڑھا۔ اس وقت میرے دل میں ایک خیال گزرا کہ اگر کوئی فقہ اور فقہا کی تاریخ لکھے تو یہ مرثیہ ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے جس میں نجف اور ایران کے فقہا کے علاوہ برصغیر کے علما کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

آج چند ناگزیر وجوہات کی بناء پر بہت مختصر طور پر مجھے اس موضوع پر کچھ لکھنے کی ضرورت پیش آئی تو یاد آیا کہ حضرت نسیم امر وہوئی نے بھی اس موضوع پر ایک مرثیہ لکھا ہے۔ لہذا میں نے محترم جناب علی کرار نقوی کو زحمت دی تو آپ نے فوراً یہ کتاب مہیا کی۔ اس مرثیے کے بارے میں خود کچھ لکھنے کے بجائے مجھے یہ پسند ہے کہ اس کے بارے میں دوسرے علما اور دانشوروں کی تحریروں کے چند اقتباسات بعینہ تحریر کروں۔

علامہ رضی تحریر فرماتے ہیں: ”میں سمجھتا ہوں کہ شاعر آل محمد حضرت نسیم امر وہوئی اردو زبان کے پہلے وہ ادیب و شاعر ہیں جنہوں نے مرثیہ نگاری کے قدیم طرز میں اس تعمیری فکر کو پیش کیا اور ہماری زبان کے رثائی ادب میں

معتدل تفقہ شعری اور بالغ نظر ادبی اجتہاد سے کام لیا ہے۔ اس طرح انہوں نے مرثیہ کے ادبی اور بدیعی استحباب کے ساتھ ایک جدید مگر انتہائی تعمیری طرز کا استنباط کر کے شعرو سخن کے دھارے کو اس نئے رخ سے پوری طرح آشنا کیا ہے۔ یہ مرثیہ مرکزی تخیل کی حیثیت سے حضرت آیۃ اللہ العظمیٰ آقا ی السید محسن الحکیم طباطبائی طاب ثراہ کی شخصیت کے متعلق ہے، مگر اس کی تمہید میں اساطین فقہ جعفری کی ایک مختصر مگر انتہائی با مقصد تاریخ بھی ہے اور ساتھ ہی فقہ واجتہاد کی نظریاتی حقیقتوں پر بنیادی اشارے بھی ہیں۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ مرثیہ نہیں بلکہ جعفری اجتہاد و استنباط کی تاریخ پر ایک منظوم مقالہ ہے۔“

ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے لکھا ہے: ”جناب سید قائم رضا نسیم امر وہوی جو ”مرثیہ محسن الحکیم“ کے مصنف ہیں، ”شاعر آل محمد“ کے نام سے متعارف ہیں، بقول رشید احمد صدیقی اعلیٰ درجے کی ادبی اور فنی تخلیق کے لیے شرافت اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کا پاس ناگزیر ہے جو شخص ان خصوصیات کا حامل ہوگا اس کی گفتار اور کردار میں ترفع ہوگا۔ جناب نسیم امر وہوی اصلاً، نسلاً اور اپنی ذات میں شرافت اور نجابت کا مجسمہ ہیں اور یہی جوہر ان کے کلام میں نظر آتے ہیں۔ زیر نظر مرثیہ جناب آیۃ اللہ محسن الحکیم کی وفات پر لکھا گیا ہے۔ اس مرثیے میں جناب نسیم امر وہوی نے ایک ہزار سال کے اکابر علما کا تذکرہ حاصل کر کے اس داستان کو پورا منظوم کر دیا ہے، جس کی ایک کڑی جناب محسن الحکیم تھے۔ ان تفصیلات سے جہاں ان اکابرین کی یاد تازہ ہوئی ہے وہاں جناب نسیم

صاحب کی معلومات اور ان کے سلیقہ ترتیب و تزئین کی بھی داد دینی پڑتی ہے۔ ہر بند میں جن علما کا ذکر ہے حواشی میں ان کے بارے میں مختصر اشارے بھی ملتے ہیں، جن سے یہ مرثیہ ایک تاریخی دستاویز بن گیا ہے۔“

ڈاکٹر یاور عباس صاحب کے مطابق: ”جناب نسیم امر وہوی نے انسانوں کی تاریخ کا ایک خاکہ کھینچا ہے جبکہ لوگ سلاطین، فاتحین اور ظالمین کی تاریخ نئی نسل کے ناپختہ ذہنوں کو پڑھاتے ہیں۔“

آپ مزید تحریر فرماتے ہیں: ”جہاں مرثیے کی ادبی خوبیوں اور اس کے مذہبی عبور کا تعلق ہے وہاں یہ اعتراف ضروری ہے کہ صاحبان علم کے علاوہ مومنین میں بیشتر حضرات اس کی وسعت کو مجھ سے زیادہ پاسکتے ہیں۔ نسیم صاحب نے مسئلہ اجتہاد پر روشنی ڈالی ہے۔ ضرورت اجتہاد پر دلائل پیش کیے ہیں۔ مجتہدین کی اہمیت پر بات کی ہے۔ ترقی کیا ہے؟ کتنی ضروری ہے؟ اور اس پر عقل و دین کا حصار قائم ہے۔ اس کی ضرورت بیان کی ہے اور ان سب کے نظام کے لیے نائب امام کی ضرورت واضح طور پر بیان کی ہے اور ترقی کی مستحکم رفتار کے لیے اس نظام کی ضرورت ثابت کی ہے۔“

آپ نے علما اور دانشوروں کے تاثرات سے اندازہ کیا ہوگا کہ ہم نے اس مرثیے کو کتاب میں صرف مرثیے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت سے جگہ دی ہے۔ ان عظیم محسنوں کی قدردانی کا حق اس طرح ادا کیا جاسکتا ہے کہ ان کے کام کو دوسری نسلوں تک منتقل کیا جائے۔ اس

پیش رفت
طرح ہر نسل میں وہ اپنے کام کے ذریعے زندہ و تابندہ رہیں گے کیونکہ ”من
ورّخ نفساً کانما احیایا“ جس نے کسی کی تاریخ کو بیان کیا گویا اسے
زندہ کیا۔

فقہ صادق کے اساطین کی تاریخ کا یہ سلسلہ حضرت آیۃ اللہ محسن الحکیم پر
آ کر رک گیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تلامیذ الرحمان میں سے کوئی دوسرا فرد اس
سلسلے کو آگے بڑھاتا اور اس طرح موجودہ زمانے کے فقہاء کی تاریخ بھی ثبت
ہوتی۔ اگر چاہیں تو یہ حق سب سے زیادہ تقسیم نسیم امر و ہوی صاحب کا ہے۔
خداوند عالم سے دعا ہے کہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔

ذوالفقار علی زیدی

خطیب
جامع مسجد مصطفیٰ، عباس ٹاؤن
کراچی

﴿۱﴾

چراغِ منزلِ عرفاں ہے نورِ علم و عمل
تجلیات کا مظہرِ ظہورِ علم و عمل
مگر، وہ جب، کہ ہو اتنا و نورِ علم و عمل
کہ لاشعور میں ضم ہو شعورِ علم و عمل
تلاشِ دوست میں یوں شرحِ صدر ہو جائے
کہ گم شدہ کو جو پائے، تو آپ کھوجائے

﴿۲﴾

بشر کی روح ہے علم و دل و ضمیرِ عمل
وہ ہے سراجِ منیر اور مُستنیرِ عمل
سرشتِ فکر ہے وہ، سعی کا ضمیرِ عمل
وہ اقتدارِ امارت سے اور امیرِ عمل
جو علم سے ہے عمل، تو عمل سے عالم ہے
نہ ہو عمل، تو عالم نہیں ہے ظالم ہے

﴿۳﴾

جمالِ شہدِ حق علم ہے، عمل ہے جلال
محاسنِ ابدی کا وہ نور ہے، یہ کمال
وہ نخل ہے یہ ثمر ہے، وہ مال ہے یہ مال
وہ فلسفہ یہ حقیقت، وہ قیل و قال یہ حال
جہانِ ذات وہ ہے، عالمِ صفات یہ ہے
حیات وہ ہے، مگر مقصدِ حیات یہ ہے

﴿۴﴾

وہ کنزِ حقیقیِ غیبی ہے گن فکاں کی متاع
 وہ لامکاں کی ہے پونجی، تو یہ مکاں کی متاع
 وہ آسماں کی، تو یہ دورِ آسماں کی متاع
 وہ اُس جہاں کا عطیہ، یہ اس جہاں کی متاع
 وہ ضوِ سمیع کی ہے، یہ بصیر کا پرتو
 علیم کی وہ جھلک، یہ قدیر کا پرتو

﴿۵﴾

وہ ہے تفکرِ ذہنی، یہ ہے نشووعِ نیاز
 وہ رازدارِ حقیقت ہے، اور یہ کاشفِ راز
 وہ خضرِ منزلِ ہستی، یہ اُس کی عمرِ دراز
 وہ غیب کی ہے کرامت، یہ شخص کا اعجاز
 اگر وہ ہے زرِ خالص تو آبِ زر یہ ہے
 جو علم، خلدِ بریں ہے تو اُس کا در یہ ہے

﴿۶﴾

ضیائے علم سے قائم ہے آب و تابِ عمل
 بغیر علم نہیں کوئی کامیابِ عمل
 جو ”راخون“ ہیں ”فی العلم“ وہ ہیں بابِ عمل
 جوابِ علم کا اُن کے، نہ ہے جوابِ عمل
 نبی ہیں علم کے ساتھ اور نبی کے ساتھ عمل
 علی کا صدر ہے علم اور علی کا ہاتھ عمل

﴿۷﴾

نبیؐ ہیں وحی خدا سے کتابِ علم و عمل
فروعِ علم و عمل آفتابِ علم و عمل
نبیؐ کے بعد علیؑ فیضیابِ علم و عمل
درِ علوم نے کھولے ہیں بابِ علم و عمل
یہ ہر دو باب میں اس درجہ کامیاب رہے
اُلٹ بھی دے جو کوئی باب کو تو باب رہے

﴿۸﴾

یہ علم اور یہ عمل ہے وہ نعمتِ داور
جو آدمی کو بنا دے بشر سے خیر بشر
جہاں میں اس کا ہے مرکز، رسولِ پاک کا گھر
یہ شہرِ علم و عمل، علمِ باعمل کا ہے در
تسکمی ہے علم و عمل میں نہ یاں فزونی ہے
مزے جہاد کے ہیں، گفتگو سلونی ہے

﴿۹﴾

نبیؐ ہیں منزلِ علم و عمل کے ماہِ تمام
نہ ہوں نبیؐ، تو یہ علم و عمل ہے ارثِ امام
نہ ہوں امام، تو نائب ہیں وہ فقیہِ امام
جو اجتہاد کی منزل میں صاحبِ الہام
فروعِ دیں میں نظر کامیاب ہے اُن کی
کبھی کبھی تو خطا بھی صواب^(۱) ہے اُن کی

(۱) مجتہد فقیہ کو استنباطِ احکام میں خطا پر ایک اور صواب پر دواجر ملتے ہیں۔

﴿۱۰﴾

امام آئیں گے کل، اور آج کل ہیں یہی
دوائے دردِ جگر جب نہ ہو، بدل ہیں یہی
رموزِ غیبتِ مہدی دین کا حل ہیں یہی
عمل گواہ ہے خود، وارثِ عمل ہیں یہی
ظہور میں جو مشیتِ خدا کی حاجب ہے
صلاحِ خلق ہے فرض^(۱)، اجتہاد واجب ہے

(۱) فلولا نفر من کل فرقة.....، سورہ توبہ، آیت ۱۲۲

﴿۱۱﴾

یہ اجتہاد کہ فتویٰ ہے جس کی حدِ سفر
اصول دین، تصرف سے اس کے ہیں باہر
قدم قدم پہ یہ لازم ہے وقتِ فکر و نظر
کتاب و سنت و اجماع و عقل ہوں رہبر
عمل بھی شرط ہے، اور نفس کی طہارت بھی
وَرَع بھی، زہد بھی، ایثار بھی، عدالت بھی

﴿۱۲﴾

یہ اجتہاد وہ ایک موج ہے ترقی کی
جو ہے ازل سے ابد تک رواں جلی و خفی
ہر اک قدم پہ فلک ہے نیا، زمین نئی
حیات ایک جگہ پر ٹھہر نہیں سکتی
یہ جدوجہد بھی ہے، اور یہی جہاد بھی ہے
جو ارتقا ہے مُسَلَّم، تو اجتہاد بھی ہے

﴿۱۳﴾

ہزار سال سے، فقہ و اصول میں یکسر
امامیہ سے ہے مخصص یہ اجتہاد، مگر
جو حق ہے، کیوں نہ کہا جائے بر سر منبر
کہ مل سکے گی نہ منزل بغیر سعی و سفر
حدود شرع میں، فکرِ جدید لازم ہے
جدید فکر میں فکرِ مزید لازم ہے

﴿۱۴﴾

سیاستِ ازلی ہے یہ دین کا پیغام
رواجِ علم و عمل ہو بجائے تیغ و حسام
کریں جہاں میں جاری یہی اصول و نظام
رسولِ پاک، امام اور نائبینِ امام
یہ ہیں نبی و امامِ فلک پناہ کے بعد
نجومِ راہ دکھاتے ہیں مہر و ماہ کے بعد

﴿۱۵﴾

مسائلِ عملی، ہر قدم ہیں پیشِ نظر
کہ جن سے واقف و ماہر نہیں ہر ایک بشر
بحکمِ شرع بنا یہ اصولِ حق پرور
کہ تاجدارِ نیابت ہوں اہلِ فقہ و خبر (۱)
فقہ و افقہ و زہد آشنا ہوں جو ہم میں
ہیں ناگزیر وہ عالم ہر ایک عالم میں

(۱) دیکھیے توفیق امام زمانہ ص ۳

﴿۱۶﴾

ہوئے جو غیبتِ کبریٰ میں ناہمینِ کرام
وہ نامزد ہیں نہ وارث نہ انتخابِ عوام
نہ قیدِ نسل و وطن ہے، نہ شرطِ جاہ و مقام
جو فقہ و زہد کا مرکز، وہ جانشینِ امام
بصدِ خلوص سب اس راہ سے گزرتے ہیں
ابھارے یہ نہیں جاتے ہیں، خود ابھرتے ہیں

﴿۱۷﴾

ہر اک وہ ذاتِ گرامی ہے جانشینِ امام
بنے جو حجتِ قاطع سے، حجۃ الاسلام
ابوتراب کا تابع، زمیں پہ عرشِ مقام
زمانہ نام کا طالب، اور اس کو کام سے کام
وہ علم اور وہ عمل کا ہو جوشِ سینے میں
کہ دو جہاں سمٹ آئیں اس اک سفینے میں

﴿۱۸﴾

انہیں ابھار دے جن پر جمود ہو طاری
کہ اجتہاد ہے فکر و نظر کی بیداری
فقہ کی ہیں بہت، ذمہ داریاں بھاری
یہ اس منیب کا نائب، جو نائبِ باری
صدائیں گونج رہی ہیں، کلامِ غیب میں ہے
کہ مجتہد تو ہے ظاہر، امامِ غیب میں ہے

﴿۱۹﴾

وہ مجتہد کہ ہے جن کا علوم کو بھی الم
جو دس صدی میں ہوئے نائب امام ائم
کچھ ان میں وہ، کہ مقلد ہیں سب، عرب کہ عجم
کچھ ایسے افقہ دوراں کہ دائرہ کچھ کم (۱)
وسیع خلق و کرم، جود و حلم بے پایاں
حدود کار تھے محدود، علم بے پایاں

(۱) علمائے ہند

﴿۲۰﴾

وہ خاک ہند پہ تھے آسمان فقہ کے ماہ
میان عہد جہانگیر جیسے نور اللہ (۱)
شہید (۲) ثالث و قاضی، قاتل و شرع پناہ
غلام پنج تن اور پانچ فقہوں سے آگاہ
خوشی سے ہو گئے قربان مرضی رب پر
ہوئے قضا سے مشرف، قضا کے منصب پر

(۱) قاضی نور اللہ شوستری (مدفن آگرہ) جو فقہ جعفری کے علاوہ اہل سنت کے ائمہ اربعہ کی فقہ کے بھی عالم و ماہر اور

عہد جہانگیری میں قضا کے منصب پر فائز تھے، حکم بادشاہ شہید (۱۰۱۹) کیے گئے۔

(۲) شہید اول اور شہید ثانی کا ذکر بند نمبر ۳۵ پر دیکھئے

﴿۲۱﴾

اسی قبیل سے غفراں (۱) میابِ خلد مقام
اودھ کے چاند، مگر چاندنی تھی ہند میں عام
وہ ہو نماز جماعت کہ فقہ کا ہو نظام
انہی کے دور سے جاری ہے تا ظہور امام

کلام میں وہ کتابِ عماد لکھ دی ہے
خود اپنی اک سندِ اجتہاد لکھ دی ہے

(۱) غفران مآب سید ولد ارعلی (نقوی) جن سے پہلے طریقِ جعفری پر نماز جمعہ و جماعت ہندوستان میں تیس تیس ہوتی تھی۔ آپ نے اس ملک میں اجتہاد و ہدایت کی بنا ڈالی اور اقصائے ہند میں جگہ جگہ اپنے تلامذہ کو پیش نماز کے لیے بھیجا اور مسجدیں تعمیر کرائیں۔ سب سے اہم تصنیف کتاب "عماد الاسلام" ہے جو پانچ مجلدات پر مشتمل اور علم کلام میں آپ کا بے نظیر شاہکار ہے۔ (وفات: ۱۲۳۵ھ)

﴿۲۲﴾

پھر ان کی آل میں سید (۱) محمد ذی جاہ
خطاب جن کا ہے رضواں مآب، طاب ثراہ
انہی کے بھائی وہ سید (۲) علی حق آگاہ
جو کربلا میں رہے، زندگی تھی خلد پناہ
یہ سب سے پہلے مُفسِّر زبانِ اردو میں
جناں کے پھول کھلائے جہاں اردو میں

(۱) سلطان العلماء سید محمد رضوان مآب، (خلف اکبر غفران مآب) (وفات: ۱۲۸۳ھ)
(۲) سید المفسرین سید علی (خلف غفران مآب) جنہوں نے عمر کا آخری حصہ جو اسید الشہد میں بسر کیا۔ آپ کی تفسیر توضیح الحجید، بزبان اردو دو ضخیم مجلدات پر مشتمل ہے (وفات: ۱۲۵۹ھ)

﴿۲۳﴾

جناب سید مہدی (۱) تھے افتخارِ زمن
کہ جن کی موت میں سورج کو لگ گیا تھا گہن
فرید و فرد تھے سید حسین (۲) کفر شکن
علوم کا تھے یہ کوثر، عمل کی نہر لبین
تلامذہ میں فقیہانِ وقت اکثر تھے
یہ مجتہد ہی نہیں، بلکہ مجتہدِ گر تھے

(۱) سید مہدی (خلف غفران مآب) آپ کی رحلت کے دن سورج کو گہن لگا (وفات: ۱۲۳۰ھ) (۲) سید العلماء سید حسین علیین مکان (خلف اصغر غفران مآب) جنہوں نے علمی مناظروں میں مخالفین کو قائل کیا اور آپ کے زمانے میں جتنے فقیہ گزرے تقریباً سب کے سب آپ ہی کے خرمنِ علم کے خوشہ چیں تھے۔ (وفات: ۱۲۷۳ھ)

﴿۲۴﴾

وہ مرتضیٰ (۱) جو در علم تھے اپنے علما
لحد سے جن کی تلاوت کی آربی تھی صدا
وحید عصر وہ بندہ (۲) حسین ☆، عبد خدا
جو تھے مترجم قرآن، ترجمان بدنی
وہ عمدة العلماء اک جناب ہادی (۳) تھے
ہدایتوں کے جو مہدی کی طرح عادی تھے

نہا چونکہ علم ہے اس لیے اس کا وہ تلفظ (بندے حسین) نظم میں لایا گیا جو خواہ میں رائج ہے

- (۱) سید مرتضیٰ بن سلطان العلماء جن کی تلامذہ میں فردوس مآب سید حامد حسین کے ایسے علما ہر فہرست تھے۔ آپ کے مدفن ہونے کے بعد شکر کا جنازہ نے (جن میں فقہاء بھی شامل تھے) آپ کی قبر کے اندر سے تلاوت کی آواز بلند ہوتے ہوئے سنی۔ (وفات: ۱۴۰۷ھ) (۲) ملک العلماء بندہ حسین بن سلطان العلماء آپ نے تفسیر کے مطابق قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور اردو میں سب سے پہلے مسائل میراث کا رسالہ لکھا۔ (وفات: ۱۴۹۳ھ) (۳) عمدة العلماء سید محمد ہادی بن سید مہدی جو اوادھ کے شاہی میں مفتیوں کے انچارج تھے۔ (وفات: ۱۴۰۵ھ)

﴿۲۵﴾

وہ علم و فصل محمد تقی (۱) متاع عظیم
علی تقی (۲) کی فضیلت عدو کو بھی تسلیم
گل ریاض شریعت محمد ابراہیم (۳)
مقدمے میں ازاں کے جو قوم کے تھے زعمیم
وہ مصطفیٰ (۴) جو ملقب بہ میر آغا تھے
بڑے بڑے فقہائے زماں سے اعلیٰ تھے

(۱) ممتاز انعماء جنت مآب سید محمد تقی بن سید حسین (وفات: ۱۴۸۹ھ)

(۲) زبدۃ العلماء سید علی تقی بن سید حسین (وفات: ۱۳۰۹ھ) (۳) شمس العلماء فردوس مکان سید محمد ابراہیم بن

سید محمد تقی، اذان میں کلمہ اشہد ان علیاً الخ کے شمول کا مقدمہ آپ ہی کی جدوجہد سے کامیاب ہوا۔ (وفات:

۱۳۰۷ھ) (۴) عماد العلماء سید مصطفیٰ معروف بہ میر آغا بن عمدة العلماء (وفات: ۱۳۲۳ھ)

﴿۲۶﴾

نقیب علم وہ سید علی محمد (۱) سا
کہ سر کا تاج سمجھتے تھے جس کو سب فضلا
ابوالحسن (۲) وہ ملاؤ العلوم والعلما
نہ تھا جو اب محمد حسین (۳) علین کا
تقی (۴) کہ جن کا فقیہوں میں بول بالا ہے
شرف کی ان کے سند جمعہ کا رسالا سے

(۱) تاج العلماء سید علی محمد خلف سلطان العلماء جن کی ترغیب سے بہت سے طلبہ نے فقہ و اصول کی تحصیل کی۔ آپ کثیر تصانیف اور عربی کے علاوہ عبرانی زبان کے بھی ماہر تھے۔ (وفات: ۱۳۱۲ھ) (۲) ملاؤ العلماء سید ابوالحسن معروف بہ بچھن خلف اصغر سید بندہ حسین، یہ اپنے علم و فضل کی بنا پر بڑے بھائی سے پہلے مرجع تقلید ہوئے۔ (وفات: ۱۳۰۸ھ) (۳) سید محمد حسین معروف بہ علین خلف اکبر سید بندہ حسین، یہ چھوٹے بھائی کی وفات کے بعد مرجع تقلید قرار پائے۔ (وفات: ۱۳۲۵ھ) (۴) سید محمد تقی (مولانا آغ مہدی متیم کراچی کے والد) بن سید محمد ابراہیم مصنف رسالہ جمعہ بزبان عربی (وفات: ۱۳۳۰ھ)

﴿۲۷﴾

جناب سید باقر (۱) تھے افقہ الفقہا
جناب مولوی آقا حسن (۲) بھی راہ نما
جناب سبط حسین (۳) فقیہ صلی علی
جناب سید ہادی (۴) چراغ راہ ہدی
یہ ایک گھر میں اور ایک مملکت سے بالا تھے
کہ اہل فوج نہ تھے، صاحب رسالہ (۵) تھے

(۱) افقہ الفقہا سید محمد باقر (سید محمد تقی بن سید حسین کے نواسے) پرنسپل جامعہ سلطانیہ لکھنؤ (وفات: ۱۳۲۶ھ) (۲) قدوة العلماء سید آقا حسن (عماد العلماء میر آغا کے بھانجے) آپ نے دینی خدمت کے دوش بدوش قوم کی معاشرتی و معاشی اصلاح حال کے لیے نئی نئی راہیں نکالیں (وفات: ۱۳۳۷ھ) (۳) افقہ زماں سید سبط حسین متیم جون پور (وفات: ۱۳۷۲ھ) (۴) سید محمد ہادی (سید محمد تقی بن سید حسین کے نواسے) (وفات: ۱۳۷۷ھ) (۵) وہ مجتہد جامع الشرائط جو تقلدین کے لیے رسالہ عملیہ لکھے۔

﴿ ۲۸ ﴾

بہت تھے (۱) اور بھی اس گھر میں، اور ہیں (۲) بھی جلیل
شمار کیا ہو کہ دفتر کثیر، وقت قلیل
ہوئی مثال جو قائم، بنے کچھ اور مثیل
کہ جیسے مفتی عباس (۳)، بے نظیر و عدیل
انحیب گو نہ ہوا افتخار دید ان کا
وہ میرے جد کے تھے مرشد، میں ہوں مرید ان کا

(۱) مثلاً: سید ابوالحسن معروف بہ منن معلم مدرسۃ الواعظین (وفات: ۱۳۵۵ھ)۔ سید احمد معروف بہ عالمہ ہندی (وفات: ۱۳۶۶ھ)۔ شمس العلماء سید ابن حسن (وفات: ۱۳۶۸ھ) (۲) مثلاً: سید العلماء سید محمد پرنسپل جامعہ سلطانیہ لکھنؤ۔ سید علی نقی مصنف رسائل کثیرہ۔ سید محمد حسن (مقیم کربلائے معلیٰ)، سید کلب عابد امام جمعہ و جماعت لکھنؤ۔ (۳) مفتی سید محمد عباس جو فقیہ بھی تھے اور شاعر بھی۔ میرے جد امجد فرزدق ہند نسیم امر و ہوی (وفات: ۱۳۳۳ھ) آپ ہی کے شاگرد تھے۔ (وفات: ۱۳۰۶ھ)

﴿ ۲۹ ﴾

انہی کے، مفتی احمد علی (۱)، خلف تھے رشید
بڑے تھے جن سے محمد علی (۲)، ادیب و حید
تلامذہ میں تھے نجم الحسن (۳) وہ اک خورشید
جو اہل مشرق و مغرب کے مرجع تقلید
یہی تھے مدرسۃ الواعظین کے بانی
دیار کفر میں تبلیغ دین کے بانی

(۱) مفتی احمد علی جو دور آخر میں صاحب افتاء اور فقید المذاہب فقیہ اور جامعہ ناظمیہ لکھنؤ کے پرنسپل تھے۔ (وفات: ۱۳۸۹ھ) (۲) مفتی محمد علی جو صد ہا قصائد عربی (در نعت و منقبت) کے مصنف اور مشاہیر فقہائے عصر حاضر (حج و میت) کے استاد تھے۔ (وفات: ۱۳۶۱ھ) (۳) شمس العلماء نجم الملت والدین سید نجم الحسن (تقویٰ امر و ہوی) جو مفتی محمد عباس کے شاگرد رشید اور خویش تھے۔ آپ نے لکھنؤ میں مدرسۃ الواعظین قائم کر کے کل ممالک عالم میں مبلغین بھیجے جانے کا سلسلہ آغا کیا جو اب تک جاری ہے۔ (وفات: ۱۳۶۰ھ)

﴿ ۳۰ ﴾

وہ مفتیوں میں محمد قلی (۱) نیک صفات
 علوے مجتہد تشہید جن کا پرتو ذات
 انہی کے، حضرت حامد (۲) حسین عکس حیات
 مشام روح کی ترویج، جن کی ہے عبقات
 قمر تھے ناصر (۳) ملت ان آفتابوں کے
 مصنف آپ تھے پچانوے کتابوں کے

(۱) مفتی سید محمد قلی نیشاپوری کٹھوری جو علم کلام کے ماہر، مبلغ اور مشہور مناظر تھے۔ کتاب، نشید المطامن اور تالیب الکاوند، آپ ہی کے قلم کا شکار ہیں۔ (وفات: ۱۲۶۰ھ) (۲) فردوس مآب سید حامد حسین مصنف عبقات الانوار (در جواب تحفہ اثنا عشریہ) لغت مجلدات، آپ کا کتب اسلامیہ کا ذاتی کتب خانہ (واقع لکھنؤ) پاک وہند کے کل کتب خانوں پر (بلحاظ تعداد کتب، نیز بلحاظ جامعیت علوم و فنون و نوادر) فوقیت رکھتا ہے، جس میں کل اسلامی مطبوعات و مخطوطات و علمی رسائل و اخبارات کے علاوہ علامہ سیوطی کے ایسے علماء و فضلا کے دست مبارک سے لکھی ہوئی کتابوں کے وہ نسخے بھی موجود ہیں جو کسی اور جگہ نہیں ملتے۔ (وفات: ۱۳۰۶ھ) (۳) شمس العلماء ناصر الملت صدر احققین سید ناصر حسین، آپ ۹۵ کتابوں کے مصنف تھے جن کی تفصیل ”وانا صراہ“ (رثاء مرحوم مصنفہ رقم الحروف) میں درج ہے۔

﴿ ۳۱ ﴾

معاصر ان کے ظہور الحسن (۱)، بہ حسن حسن
 اسی قبیل سے یوسف حسین (۲) فخر زمن
 جناب سبط نبی (۳) علم و زہد کے مخزن
 جناب کلپ حسین (۴) خطیب، ماہر فن
 سلف کی شان تھی سید حسین (۵) ایسے تھے
 قلم سے پوچھو محمد سعید (۶) کیسے تھے

(۱) ظہور الملت سید ظہور الحسن (سادات باہرہ، لکھنؤ) جو فقیہ ہونے کے علاوہ منطق و فلسفہ میں دور حاضر کے محقق طوسی اور بوعلی سمجھے جاتے تھے۔ (وفات: ۱۳۵۹ھ) (۲) یوسف الملت والدین سید یوسف حسین نجفی (امروہہ) میرے عم محترم اور استاد شفیق تھے۔ میں نے نحو، صرف، منطق، فلسفہ، فقہ، اصول فقہ، حدیث، تفسیر اور علم کلام سب کچھ انہی سے پڑھا۔ بنا بریں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مرحوم جامع علوم تھے۔ (وفات: ۱۳۵۵ھ) (۳) سید سبط

نبی بانی و صدر مدرس باب العلم لوگانواں سادات (امروہوہ) علم و فضل کے علاوہ زہد و تقویٰ میں بھی بے نظیر تھے۔
 تقلیدین کا سلسلہ افریقہ اور مدغاسکر تک پہنچا۔ (وفات: ۱۳۵۸ھ) (۴) عمدۃ العلماء سید کلب حسین (بن قدوۃ
 العلماء) امام جمعہ و جماعت لکھنؤ جو مرجع تقلید ہونے کے علاوہ عدیم المثال خطیب اور ہزار ہا موعظ حسنہ کے خالق
 بھی تھے۔ (وفات: ۱۳۷۳ھ) (۵) سید حسین بن سید محمد ہادی، آپ تفقہ اور زہد و تقویٰ میں اسلام کا نمونہ
 تھے۔ (وفات: ۱۳۸۵ھ) (۶) سعید الملتہ والدین سید محمد سعید (بن ناصر الملتہ) مصنف عبقیات الانوار جلد
 شانزدہم و ہفتم، و کتاب مسانید (احادیث و کتب و اقوال ائمہ) ۲۰ مجلدات۔ (وفات: ۱۳۸۷ھ)

﴿۳۲﴾

اودھ سے دور ابوالقاسم (۱) اک فقیہ جلیل
 جو پنج آبے ہیں انوارِ پنجتین کی دلیل
 کلام رب کے مفسر تھے یہ مع تاویل
 ضیائے شمعِ قلم ہے، لوامع التزئیل
 خلف بھی آپ کے اک بحرِ علم و عرفاں تھے
 وہ حاری (۲) کے تاجر پہ لوگ حیراں تھے

(۱) سید ابوالقاسم قمی (فقیر و مفسر) مقیم لاہور مصنف تفسیر لوامع التزئیل۔ (وفات: ۱۳۲۳ھ)
 (۲) سید علی حاری مرجع تقلید خواص و عوام پنجاب مقیم لاہور، آپ نے تفسیر لوامع التزئیل کی چند جلدیں مکمل کیں۔

﴿۳۳﴾

یہ اہل فقہ و اصول و روایت (۱) و قرآن
 زراہِ علم و عمل، نائب امامِ زماں
 گھرے تھے کفر میں اور تھے مبلغِ ایماں
 دیارِ ہند میں کعبہ، بتوں میں حق کی زباں
 بزرگ ان کے جہاں نام تک چھپا کے رہے
 یہ ان زمینِ خرف کو نجف بنا کے رہے

(۱) زیر نظر فہرست علماء میں اصولیین اور اخباریین ہر دو قسم کے علماء شامل ہیں اور توفیق امامِ مصر کی رو سے دونوں کی
 قیادت درست ہے جو آپ نے جو تھے نائب خاص ابوالحسن علی بن محمد السمری (وفات: ۳۲۹ھ) کے نام جاری فرمایا
 تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی بن محمد السمری اعظم اللہ اجرا خوا نک نیک فانت میت ما بینک و بین سنتہ ایام فاجمع
 امرک و الاتوص الی احد فیتوم مقامک بعد وفاتک فقد وقعت الغیبة التامة فلا ظہور الا بعد اذن اللہ تعالیٰ ذکرہ و ذکرک بعد

طول الامد (بحار الانوار، ج ۱، ص ۹۸ و شواہد الاخبار از ملا جامی، ص ۲۱۳)۔ اس تویق کے بعد علی بن محمد سمری نے عرض کی کہ اب مشکلات کس طرح حل ہوں گی؟ امام نے تحریر فرمایا: اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیہا الی رواة احادیثنا فانہم حججی علیکم و انا حجة الله علیہم والراو علیہم كالراد علی سى الراد علی كالراد علی الله فهو كحد الشرك بالله (احتجاج طبرسی، ص ۲۶۳) خلاصہ: امام نے علی بن محمد سمری کے نام فرمان جاری کیا کہ آج سے چھ دن کے اندر تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ تم کسی کو اپنی جگہ مقرر نہ کرنا کیونکہ نبیت کبریٰ شروع ہوئی ہے اور اب طویل مدت کے بعد جب خدا پائے گا ظہور ہوگا۔ علی بن محمد نے عرض کی کہ پھر مشکلات کس طرح حل ہوں گی؟ جواب ملا کہ ہماری احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کیا جائے اور ان کے بیان کو حجت اور ان کی مخالفت کو کفر سمجھا جائے۔

﴿ ۳۴ ﴾

علاوہ ان کے وہ علام و افقہ و اعلم
جو تھے مراکز علمی* میں مرجع عالم
و دس صدی میں ہیں صدہا، کوئی سوا، کوئی کم
کہ جیسے شیخ کلینی (۱) محدث اعظم
اگرچہ کشتہ صدمات بے تلافی تھے
مگر حمایت دین خدا میں کافی تھے

۱۔ العراق و عجم

(۱) شیخ الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق رازی کلینی، صاحب اصول کافی۔ (وفات: ۳۲۹ھ)

﴿ ۳۵ ﴾

زبان صد وہ شیخ صدوق (۱) فرد و فرید
محمد بن علی نام، مرجع تقلید
وہ کاظمین میں شیخ مفید (۲) اور اتنے مفید
کہ مرتضا و رضی سے تلامذہ ہیں رشید
جنہیں رسول کی بیٹی نے نور عین کہا (۳)
یہ دونوں بھائی تھے جن کو حسن حسین کہا

(۱) شیخ صدوق محمد بن علی بن بابوی قمی (وفات: ۳۸۱ھ) (۲) شیخ مفید ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن نعمان (وفات:

۳۱۳ھ) (۳) شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ شیخ! میں اپنے حسین کو تمہارے پاس

تعلیم کے لیے لائی ہوں۔ دوسرے دن ایک سیدانی دو بچوں کو لائیں اور شیخ کے سپرد کیا۔ ایک کا نام سید مرتضیٰ تھا جو بعد میں علم الہدیٰ کہلائے اور دوسرے سید رضی (جامع نفع البلاغہ) تھے۔

﴿۳۶﴾

وہ ان کے بعد ابوالقاسم (۱) بلند حشم
جو راہ علم میں ہادی، رہ پیدی میں علم
وہ پھر جناب ابوالفتح (۲)، فتح باب ہم
محمد بن علی، فاتح جہان حکم
علوم دے گئے دنیا کو قائد ایسے تھے
خزانے بھر دیے کنز الفوائد ایسے تھے

(۱) علم الہدیٰ ابوالقاسم علی بن حسین (وفات: ۴۲۶ھ)

(۲) ابوالفتح محمد بن علی، صاحب کتاب کنز الفوائد (وفات: ۴۳۹ھ)

﴿۳۷﴾

پھر ان کے بعد ریاض علوم دیں کی بہار
وہ شیخ طائفہ (۱)، طوسی جو زبدۃ الاخیار
محمد بن حسن، کلک جن کا گوہر بار
وہ بینش اور وہ بصیرت کہ اہل استبصار
خبر (۲) میں رفع شکوک تضاد کے بانی
نجف میں جامعہ اجتہاد کے بانی

(۱) شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن، بانی جامعہ نجف اشرف و مصنف تہذیب الاحکام و استبصار وغیرہ، آخر الذکر

کتاب میں ان احادیث کو نقل کر کے جن میں تاہر تضاد کا شک ہوتا ہے، رفع تضاد کا پہلو واضح کیا

(وفات: ۴۶۰ھ) (۲) حدیث

﴿ ۳۸ ﴾

وہ اک سنی محمد (۱) جناب شیخ اجل
نجف کی مسند علمی کے وارثِ اول
وہ شیخ وقت ابو جعفر (۲) اہل علم و عمل
جو آمل و طبرستان کے فاضل افضل
وہ بوعلی (۳) کہ جو مشہد کا دل بھی جان بھی تھے
زبانِ صدق بھی تھے، مجمع البیان بھی تھے

(۱) شیخ الاجل شیخ محمد بن شیخ الطائفہ (وفات: ۵۲۹۳ھ) (۲) شیخ ابو جعفر محمد بن ابی القاسم آملی طبری (وفات: ۵۵۲۰ھ) (۳) شیخ الفقیہ ابوعلی الفضل بن الحسن طبری شہدی صاحب تفسیر مجمع البیان (وفات: ۵۵۲۸ھ)

﴿ ۳۹ ﴾

وہ بو المکارم حمزہ (۱)، وہ شیخ ابو جعفر (۲)
حلب میں آئے علم دین پیغمبر
وہ حق نما بن ادریس، اہل فکر و نظر
جو خود محمد (۳) اور احمد کے ذی شعور پسر
سوار پھر ہوئے شاذان (۴) اس سفینے میں
قیامِ تم کا جو چھوڑا، رکے مدینے میں

(۱) ابو المکارم حمزہ بن علی حلبی (وفات: ۵۸۵ھ) (۲) ابو جعفر محمد بن علی حلبی (وفات: ۵۸۸ھ) (۳) شیخ ابن ادریس محمد بن احمد حلبی (وفات: ۵۹۸ھ) (۴) شیخ اجل ابو الفضل شاذان قمی مدنی (وفات: ۶۱۸ھ)

﴿ ۴۰ ﴾

مقیم شہر نجف و محمد جعفر (۱)
ابوالبقاء، ہیبت اللہ کے جلیل پسر
وہ جعفر (۲) بن محمد، انہی کے نور نظر
خطاب جن کا تھا شیخ الفقیہ مثل پدر

اٹھے جو وه، بن طاؤس (۳) ذى فضىلت تھے
حسنى و حنى وارث كرامت تھے

(۱) ابوالبراء نلم محمد بن جعفر بنه اللہ نجنى شىخ الفقهاء (وفات: ۶۳۵ھ) (۲) شىخ الفقهىه جعفر بن محمد (وفات: حدود
۶۵۰-۶۶۰ھ) (۳) صاحب الكرامات السىد الحسنى والحسنى رضى اللہ عنہم بن طاؤس (وفات: ۶۶۳ھ)

﴿۴۱﴾

وه كاظمىن مىں كىتا محقق طوسى (۱)
جو فلسفى، متكلم، نصير دين نبى
وه جعفر بن حسن (۲) افقه و جواد و زكى
سبھى شراىع الاسلام پڑھتے هىن جن كى
وه ضوفشانى علامه (۳) بزم على مىں
كمال علم كا حلہ تھا جسم حلى مىں

(۱) استاذ البشر شىخ الاسلام خواجه نصير اللہ بن طوسى كاظمىن محقق فلسفى، متكلم (وفات: ۶۷۲ھ)
(۲) شىخ الفقهاء جعفر بن حسن مصنف كتاب شراىع الاسلام (وفات: ۶۷۶ھ)
(۳) آىة اللہ المطلق شىخ جمال اللہ بن علامه على (وفات: ۷۲۶ھ)

﴿۴۲﴾

نصير دين (۱)، وه كاشانى نجسته صفات
على تھے ابن محمد مرقع حسنات
پھر ان كے بعد وه فخر المحققىن (۲) كى اذات
محمد بن حسن نام، علم دىں كى حىات
وه تاج دين (۳) پھر اك سىد مويد تھے
جوار مدفن حيدر مىں جو محمد تھے

(۱) نصير اللہ بن كاشانى على بن محمد (وفات: ۷۵۵ھ) (۲) فخر المحققىن محى اللہ بن محمد بن حسن (وفات: ۷۷۱ھ)
(۳) تاج اللہ بن السىد الموىد الجليل عالم نسابه محمد بن قاسم نجنى (وفات: ۷۷۶ھ)

﴿۲۳﴾

وہ نورِ صاحبِ کُمعہ محمد بن جمال
شہیدِ اول (۱) محروق، آپ اپنی مثال
وہ زین (۲) دینِ نبی، بوالحسن فرشتہ خصال
علی جو نام، تو شیخِ فقیہِ مکتبِ آل
پھر ان کے بعد وہ (۳) مقداد، کنزِ عرفان تھے
نجف کی روح تھے، بغداد کی رگِ جاں تھے

(۱) الشہید الاول المحروق محمد بن جمال الدین، صاحب کتاب لعمد فی الفقہ (شہادت: ۷۷۷ھ) (۲) زین الدین
شیخ فقیہ ابوالحسن علی حائری (وفات: ۸۲۰ھ) (۳) فاضل مقداد ابو عبد اللہ المقداد، صاحب کتاب کنز العرفان نجفی
بغدادی (وفات: ۸۲۶ھ)

﴿۲۴﴾

وہ احمد بن محمد، جو سالکوں (۱) کا جمال
یہ ان کے زہد کا عالم کہ بہرِ خلق مثال
وہ شمس دین (۲)، محمد کہ شمسِ جاہ و جلال
وطن تھا شام، مگر علم و فضل صبحِ کمال
وہ نورِ دین (۳) محقق، علی، جو کرکی ☆ تھے
ثقف تھے وہ کہ سندِ قولِ معتبر کی، تھے

☆ باشندہ مقام کرک

(۱) جمال السالکین الشیخ الزاہد احمد بن محمد (وفات: ۸۲۶ھ) (۲) شیخ شمس الدین محمد شامی (وفات: ۸۴۱ھ)
(۳) ثقف الاسلام نور الدین علی بن عالی الحقق کرکی (وفات: ۹۳۷ھ)

﴿۲۵﴾

علی وہ کُمعہ کے شارح، کہ مہرِ علم و یقین
شہیدِ ثانی (۱) و شیخِ جلیلِ زین الدین
وہ اردبیلی (۲) ذبیحہ احمدِ حق ہیں

نجف میں بعد فنا بھی جو آج تک ہیں مکیں
پھر ان کے بعد، محمد علی، جلیل (۳) ہوئے
بیان و شرح سے کافی کے جو کفیل ہوئے

(۱) شہید ثانی شیخ جلیل زین الدین علی بن محمد، صاحب کتاب شرح لحد (شہادت: ۹۶۶ھ) (۲) مولانا احمد بن محمد
اردبیلی مدنون نجف اشرف (وفات: ۹۹۳ھ) (۳) عالم جلیل محمد علی بن محمد شارح اصول کافی (وفات: ۱۰۰۰ھ)

﴿۲۶﴾

جمال (۱) دیں حسن بن علی و عرش پناہ
شہید ثانی ذی مرتبت کے غیرت ماہ
وہ اک حسین (۲) کے دلبر محمد ذی جاہ
لقب جو شیخ بہائی تو بے بہا واللہ
وہ اک تقی (۳) کہ جو تقوے میں فرد اکمل تھے
عمل کی بزم میں وہ مجلسی اول تھے

(۱) شہید ثانی کے فرزند، مولانا جمال الدین حسن بن علی (وفات: ۱۰۱۱ھ) (۲) محمد بن حسین شیخ الاسلام شیخ بہائی
(وفات: ۱۰۲۱ھ) (۳) زاہد درع محمد تقی مجلسی اول (وفات: ۱۰۷۰ھ)

﴿۲۷﴾

وہ اک (۱) محمد صالح جو اصل کونین
کیا جہادِ قلم عمر بھر بہ زینت و زین
وہ پھر نیابتِ غائب کے قلب و روح کا چین
مرتب فقہا (۲) و محدثین، حسین
پھر ان کے بعد وہ جوشِ بہارِ علم و عمل
وہ مجلسی (۳) کی مجالس بہارِ علم و عمل

(۱) مولانا محمد صالح شارح اصول کافی (وفات: ۱۰۸۰ھ) (۲) مربی الفقہاء والمحدثین حسین بن محمد (وفات:
۱۰۹۸ھ) (۳) شیخ الاسلام علامہ مجلسی محمد باقر صاحب بحار الانوار (وفات: ۱۱۱۱ھ)

﴿۲۸﴾

وہ دورِ فاضل (۱) ہندی جناب شیخ جلیل
محمد بن حسن، کشفِ پردہٴ تنزیل
وہ شیخ احمد اوحد (۲) جو بے نظیر و عدیل
جزائری، نجفی، واقفِ کثیر و قلیل
جمالِ دین (۳) وہ آقا جناب خونساری
جو پتیوں سے پرکھتے تھے تیغ و بن، ساری

(۱) فاضل ہندی شیخ جلیل محمد بن حسن صاحب کتاب کشف المثلثام (وفات: ۱۱۳۷ھ)

(۲) علامہ اوحد شیخ احمد جزائری نجفی (وفات: ۱۱۵۰ھ) (۳) آقا جمال الدین خونساری (وفات: ۱۱۵۵ھ)

﴿۲۹﴾

یہ اٹھ گئے تو سماعیل اصفہانی (۱) تھے
دعائے صبح کا جو فیضِ آسمانی تھے
پھر ان کے بعد معارف کے سنگِ پانی تھے
کہ جوئے علم بہانے کو بیہبہانی (۲) تھے
نجف میں پھر علمائے کرام کے نائب
جناب سید مہدی (۳)، امام کے نائب

(۱) حکیم اسماعیل ماژندرانی اصفہانی صاحب، شردعاء الصباح (وفات: ۱۱۷۳ھ) (۲) محقق بیہبہانی محمد باقر

(وفات: ۱۲۰۸ھ) (۳) آیت اللہ صاحب الکرامات الکثیرہ سید محمد مہدی (وفات: ۱۲۱۲ھ)

﴿۵۰﴾

وہ جعفر بن خضر شیخ اکبر (۱) نجفی
حجاب اٹھ گئے کشف الغطا سے جن کی سبھی
وہ با اصول تَفَقُّہ میں میرزا (۲) قمی
اساس جن کی قوانین پر ہے فتووں کی

پھر اک وہ عالم شرع رسولِ امجد تھے
جو نورِ عین تھے مہدی کے، آپ احمد (۳) تھے

(۱) شیخ اکبر جعفر بن شیخ خضر نجفی مصنف کشف الغطا (وفات: ۱۲۲۸ھ) (۲) فقیہ جلیل میرزا قاسم بن محمد
مصنف قوانین الاصول (وفات: ۱۲۳۱ھ) (۳) احمد بن مولانا مہدی (وفات: ۱۲۴۳ھ)

﴿۵۱﴾

وہ شیخ وقت محمد حسن (۱) فقیہ نجف
کلام جن کا جواہر کی سلک، خود وہ صدف
وہ مرتضیٰ جنہیں پہلی (۲) ملی ہے علم کی صف
ہے اب بھی جن کی مکاسب متاع کسب شرف
وہ اک محمد مہدی (۳) کہ بے نظیر تھے وہ
صغیر سن سہی، علامہ کبیر تھے وہ

(۱) فقیہ کبیر شیخ محمد حسن نجفی مصنف جواہر الکلام (وفات: ۱۲۶۶ھ) (۲) رئیس العظیم مرتضیٰ بن امین مصنف
الرسائل والکاسب (وفات: ۱۲۸۱ھ) (۳) علامہ کبیر سید محمد مہدی قزوینی (وفات: ۱۳۰۰ھ)

﴿۵۲﴾

محمد (۱) بن محمد وہ عالم نجفی
سی حضرت باقر کے باغِ دل کی کلی
میرزاے محمد (۲) حسن جو شیرازی
یہ مجتہد بھی، مجدد بھی، اور زاہد بھی
پھر اک فقیہ جو سرکار (۳) مامقانی تھے
شباب علم و عمل، زہد کی نشانی تھے

(۱) مولانا محمد بن محمد باقر نجفی (وفات: ۱۳۰۶ھ) (۲) الزاہد الورع المجدد میرزا محمد حسن شیرازی (وفات: ۱۳۱۲ھ)
(۳) الشیخ الفقیہ الزاہد الورع شیخ محمد حسن بن الموسوی عبداللہ مامقانی (وفات: ۱۳۱۳ھ)

﴿۵۳﴾

وہ میرزاے (۱) حسین خلیل شمع ہدیٰ
 جہاں میں حق کی نشانی، نشان مجد و علا
 وہ کاظم نجفی (۲) جو معلم العلماء
 اخوند، شیخ خراساں، مربی فضلا
 وہ میری یاد میں جو جو حق نمائی تھے
 جناب سید کاظم طباطبائی (۳) تھے

(۱) آیۃ اللہ شیخ میرزا حسین میرزا خلیل (وفات: ۱۳۲۲ھ) (۲) استاذ العلماء مربی الفصولا اخوند شیخ خراسانی محمد کاظم
 نجف (وفات: ۱۳۲۹ھ) (۳) فقیہ اہل البیت سید محمد کاظم یزدی طباطبائی (وفات: ۱۳۳۷ھ)

﴿۵۴﴾

وہ میرزاے (۱) محمد تقی، وہ مرد عظیم
 جو انقلاب عراقی کے سرفروش زعمیم
 وغانا میں شیر جری، درس میں عقیل و فہیم
 جو رزم ہو تو دلاور، جو بزم ہو تو کریم
 قدم جمائے دم تیغ آزمائی تھے
 یہ کیوں جہاد سے ڈرتے، یہ کربلائی تھے

(۱) الفقیہ الجہاد میرزاے محمد تقی شیرازی جو انگریزوں کے خلاف انقلاب عراقی کے زعمیم تھے اور جن کی قیادت میں
 یہ مہم سرسبز ہوئی (شہادت خفی: ۱۳۳۸ھ)

﴿۵۵﴾

پھر اک وہ شیخ شریعت (۱) فقیہ اور علام
 جو فتح رزم مسائل میں اصفہاں کی حسام
 پھر ان کے بعد وہ عبداللہ (۲) بلند مقام
 نبی کے والد ذی الاحترام کے ہمنام

یہ نسلِ علم سے تھے، ابنِ مامقانی (۳) تھے
نہی کی شرع میں، اللہ کی نشانی تھے۔

(۱) شیخ الشریعت علامہ اصفہانی (وفات: ۳۳۹ھ) (۲) شیخ عبداللہ بن شیخ محمد حسن مامقانی (وفات: ۱۳۵۱ھ)

(۳) آیۃ اللہ المتبر شیخ عبداللہ بن شیخ محمد حسن مامقانی (وفات: ۱۳۵۱ھ)

﴿۵۶﴾

وہ نائنی (۱) شرفِ نائین جن کی ذات
وہ بوالحسن (۲) کہ گنے جاسکیں نہ جن کے صفات
وہ اک ضیائے (۳) عراقی جو شمعِ راہِ نجات
اصولِ فقہ کی تجدید جن کا عطرِ حیات
وہ پھر جنہوں نے معینِ عمل کی حد ☆ کردی
حسین (۴) نام تھا مشہور تھے بروجردی

☆ اس امر کی جانب اشارہ کہ آپ کے ہاں احکام میں حکم یا نہی صریح کے علاوہ احوط میری نظر سے نہیں گزرا

(۱) شیخ علامہ میرزا حسین نائنی (وفات: ۱۳۵۵ھ) (۲) مجتہد اکبر سید ابوالحسن اصفہانی (وفات: ۱۳۶۵ھ)

(۳) شیخ ضیاء الدین عراقی مجدد اصول فقہ (وفات: ۱۳۶۶ھ) (۴) مجتہد اعظم فقہ عصر سید حسین بروجردی

(وفات: ۱۳۸۰ھ)

﴿۵۷﴾

وہ نائینِ امامت جو خود زعیم بھی تھے
فقیر آلِ محمد بھی تھے، عظیم بھی تھے
ذوی الکریم بھی، مکرم بھی اور کریم بھی تھے
اسی گروہ میں اک محسنِ الحکیم بھی تھے
زرّے اسمِ گرامی، زرّے بلطن بھی
حکیمِ وقت بھی تھے، دینِ حق کے محسن بھی

﴿۵۸﴾

یہ نفس کی عظیم سے عظیم کہلائے
 دکھائی حکمتِ عملی، حکیم کہلائے
 کرامتِ نسبی سے، کریم کہلائے
 فلک کے زعم کو توڑا، زعیم کہلائے
 جبیں سے جلوۂ علم و عمل ہویدا تھا
 عرب کی شان، عجم کا شکوہ پیدا تھا

﴿۵۹﴾

نجف کے مخزنِ علمی کے گوہر نایاب
 رئیسِ حوزۂ طلاب، مہرِ عالمِ تاب
 مدرسِ ادب و فن، معلمِ آداب
 اصول و فقہ کی دنیا میں آپ اپنا جواب
 یقین کا جس پہ ہے ایمان، اعتقاد ایسا
 جہاد سے بھی جو افضل ہے اجتہاد ایسا

﴿۶۰﴾

مزاجِ علم و عمل کا وہ امتزاجِ حسین
 فروغِ فکر و نظر کا وہ حُسنِ با تمکین
 جہاں جہاں بھی جہاں میں ہیں اہل علم کہیں
 جوابِ منزلتِ محسنِ اکھیم نہیں
 مزاجِ فقر میں ہیبت بھی، دل نوازی بھی
 وہ مجتہد بھی، معلم بھی اور غازی بھی

﴿۶۱﴾

اٹھے تھے جب کہ عراقی بہ عزمِ آزادی
تو ان کا مرتبہ رہبری تھا بنیادی
تھے سیدِ حسنی، صلح و امن کے عادی
مگر جہاد میں شانِ حسین دکھلا دی
کبھی ہوئی تھی نگاہوں میں جانین کی شان
کبھی حسن کی سیاست، کبھی حسین کی شان

﴿۶۲﴾

یہ ذات، شاید غیبت کی پردہ دار بھی تھی
نہاں بھی طینتِ معصوم، آشکار بھی تھی
شکوہ فقر بھی تھا، شانِ اقدار بھی تھی
نہ تھا قلم ہی تصرف میں ذوالفقار بھی تھی
بوقتِ درس، معلم تھے یہ، نبی کی قسم
دمِ جہاد مجاہد بھی تھے، علی کی قسم

﴿۶۳﴾

کے نصیب زمانے میں یہ رسوخ و اثر
میانِ مشرق و مغرب ہو مثلِ شمس و قمر
رہ اخوتِ ملت کے ہادی و رہبر
رسول کے کلمہ گو، عمل کے پیغمبر
بشر تھے اور مقامِ بشر سے فائق تھے
بوجہ خلقِ حسن مرجعِ خلاق تھے

﴿۶۴﴾

اگرچہ مرجع تقلید تھے بلا تردید
مگر مزاج میں اپنے نہ تھی ذرا تقلید
قدیم ہوں وہ مسائل کہ مرحلے ہوں جدید
ہر ایک امر میں تحقیق و اجتہاد مزید
بھلا حکومتِ جابر کے ہموا ہوتے؟
یہ مجتہد تھے، مُقلد کسی کے کیا ہوتے!

﴿۶۵﴾

نظر نظر سے نمودِ کمالِ عرفانی
رخ جمیل، امینِ جمالِ ایمانی
وہ آستانِ علی پر خمیدہ پیشانی
بوجہ خاکِ درِ بوترا، نورانی
بلند مہرِ فلک سے کلاہِ علم و عمل
نجف کے چاند کا پرتو یہ ماہِ علم و عمل

﴿۶۶﴾

وہ ماہ، جس سے ہدایت نے روشنی پائی
وہ ماہ، جس نے ضیائے علوم پھیلائی
وہ ماہ، مہرِ امامت کا جو تولائی
وہ ماہ، ظلم و جہالت کا جو تبرا کی
ستارہ ٹوٹ کے زہرا کے گھر جو آیا تھا
اُسی کے نور کا اس ماہ پر بھی سایا تھا

﴿۶۷﴾

وہ ماہ، جس کا تدبیر تھا انقلابِ جہاں
وہ ماہ، جس کی کرن عکسِ رحمتِ یزداں
زفرق تا بہ قدم دینِ حق کی روحِ رواں
عمل کا ہاتھ، صداقت کی روح، حق کی زباں
خدا کی راہ میں الفت کا داغ لے کے چلے
سیاستِ علوی کا چراغ لے کے چلے

﴿۶۸﴾

سیاست ان کی حقیقت بکف سیاست تھی
دماغ زیرِ اثر تھے، دلوں پہ ہیبت تھی
نہ حکم تھا نہ حکومت نہ کوئی طاقت تھی
مگر یہ رعب کے حلقہ بگوش ملت تھی
خفیف سا اکر اشارہ نگاہ کا پا کر
بساطِ فقر پہ جھکتی تھی سلطنت آ کر

﴿۶۹﴾

عطائے عقدہ کشا تھا جو ناخنِ تدبیر
ذرا سی دیر میں عقدوں کی کھول دی تقدیر
کہیں نہ کیوں انہیں ایثار و عزم کی تصویر
بڑھائی عزت ذاتی سے قوم کی توقیر
کوئی کرے نہ کرے قدر رہنمائی کی
قسم خدا کی خدائی میں نا خدائی کی

﴿۷۰﴾

ہوا نہ خدمتِ دینی کا ولولہ کبھی سرد
زباں پہ شکرِ الہی، تو دل میں قوم کا درد
عمل کی بزم میں یکتا، جہانِ علم میں فرد
مجازِ حق - سپاہی، جہادِ عزم کے مرد
تجمل ہے کفر وہ باطل سے انتقام لیا
زبانِ تیغ کا تیغِ زباں سے کام لیا

﴿۷۱﴾

وہ ذوقِ علم، وہ پیری میں معرفت کا شباب
وہ محویت وہ ریاضت، وہ فکرِ روزِ حساب
خود اپنے دل میں خموشی سے وہ سوال و جواب
جو بول اٹھے تو لرامت، جو چپ رہے تو کتاب
کسی سے کوئی تمنا، نہ تھی کسی سے غرض
خدا کا ذکر، نبیؐ سے ولا، علیؑ سے غرض

﴿۷۲﴾

وہ سادگی، کہ تجمل کو ہیچ گردانا
وہ تازگی، کہ ہر اک درد کو خوشی جانا
وہ زندگی، کہ حیاتِ ابد کو پہچانا
وہ بندگی، کہ خدائی نے ناخدا مانا
وہ اختیار، کہ سب کے دلوں پہ چھاکے رہے
وہ انکسار، کہ سردار سر جھکا کے رہے

﴿۷۳﴾

وہ خلق، خلقِ پیبر کی لذتیں جس میں
 وہ فقر، فقرِ ائمہ کی عظمتیں جس میں
 وہ عجزِ حق، صداقت کی طاقتیں جس میں
 وہ علم، علمِ امامت کی نسبتیں جس میں
 مزاج وہ، کہ حوادث تھے بے اثر جس پر
 نگاہ وہ، کہ مشیت کی تھی نظر جس پر

﴿۷۴﴾

وہ صبر و ضبط، کہ یکساں نظر میں شادی و غم
 وہ فہم و فکر، کہ مشکل کشائے اہلِ ہم
 وہ عزم و حزم کہ لرزے نہ مشکلوں میں قدم
 وہ رزم و بزم، کہ بھرپور ضربِ تیغ و قلم
 وہ علم و فضل، کہ رازِ خفی بھی جان لیا
 وہ اجتہاد، کہ ہر مجتہد نے مان لیا

﴿۷۵﴾

ہر اعتبار سے تھی جامعِ صفات یہ ذات
 کہ موتِ علم کی موت اور حیاتِ حق کی حیات
 وہ نورِ عقل، کہ پیدا ہو جس سے بات میں بات
 وہ شانِ نقل، کہ ذی عقل جس کے سامنے مات
 وہ گفتگو جو کسی وقت بے مآل نہ تھی
 صداقتوں کی کسوٹی تھی، بول چال نہ تھی

﴿۷۶﴾

بیان ہو کہ معانی، حدیث ہو کہ کلام
ہر ایک علم میں یہ نائب امامِ انام
حکیم وہ، کہ رہی زیر حکم قوم تمام
ادیب وہ، کہ ادب سے جھکے خواص و عوام
خطیب وہ، کہ فصاحت ہر ایک بات میں تھی
طیب ہو، کہ طبابت کی نبض بات میں تھی

﴿۷۷﴾

وہ ان کا مدرسہ فیض دیں کا پشت و پناہ
علیٰ کے شہر میں تعلیم کی اقامت گاہ
وہ طالبانِ علوم اہل فضل و حق آگاہ
وہ درس گاہِ عمل، لا الہ الا اللہ
وہ شانِ جذب، وہ جذبِ صفات کیا کہنا
صفات سے جو بنی تھی وہ ذات کیا کہنا

﴿۷۸﴾

وہ موعظہ ہو کہ فتویٰ، یہ احتیاط کا پاس
جو کہہ دیا وہ اصول اور جو لکھ دیا وہ اساس
لکھے ہوئے وقت ان کے پڑھیں جو نکتہ شناس
ملے ثوابِ بیان روایتِ قرطاس
قلم دلیروں کی تیغِ شدید سے افضل
سیاہی آپ کی، خونِ شہید سے افضل

﴿۷۹﴾

وہ پاسِ شرع مروت کو جس میں دخل نہ تھا
کہ جیسے اپنی جگہ پر اٹل ہے کوہِ صفا
وہ سبز باغ دکھا کر جو اک جواہر کا
کس نے سود کا ان سے کیا تھا استفتا
گیا تھا سونے کے پانی سے وہ وضو کر کے
انہوں نے پھیر لیا منہ کو، آخ تھو کر کے

﴿۸۰﴾

وہ تھا مصری صورت جواز فرما دیں
حقیقتہً نہیں، شکلِ مجاز فرما دیں
میانِ سود و ربا امتیاز فرما دیں
ذرا تو پُر شکم و آرز فرما دیں
بیاں وہ سود کی شرح مزید ہو جائے
کہ ترجمانی عصرِ جدید ہو جائے

﴿۸۱﴾

بگڑ گئے تھے یہ سُن کر جناب کے تیور
کہا تھا غیرتِ حق نے کہ او مہوؤس زر
پھنسیں کے دامِ طلا میں نہ مردِ حق پرور
امامِ وقتِ نائب ہیں یہ جلال سے ڈر
جواں ہے جرأتِ اخلاق، پیر ہیں محسن
بڑے امیر کے در کے فقیر ہیں محسن

﴿۸۲﴾

اب ان کے بعد ہم اے منتظر (۱) کہاں جائیں
ملے گی آج یہ جرات کدھر، کہاں جائیں
ہزار در ہیں کشادہ، مگر، کہاں جائیں
نہیں جو خضر تو اہل سفر کہاں جائیں
زوالِ عزم و عزیمت ہے اس زعم کی موت
وفاتِ علم و عمل محسن اکلم کی موت

(۱) امام غائب

﴿۸۳﴾

دیا تھا جس نے زمانے کو درسِ قرآنی
اب اس کے واسطے ہوتی ہے فاتحہ خوانی
نہ کیوں رلائے شریعت کدے کی ویرانی
اجاڑ ہو گئی یہ درس گاہِ روحانی
خزاں نصیب ہوا آرزو کا باغِ افسوس
حرمِ علم کا گل ہو گیا چراغِ افسوس

﴿۸۴﴾

ابھی تو قوم کی تنظیم عام باقی ہے
حیاتِ نو کا ابھی اہتمام باقی ہے
ابھی اشاعتِ حق کا پیام باقی ہے
جو تھا حضور کے ذمے وہ کام باقی ہے
نہیں ہے صورتِ اصلاحِ مومنین ابھی
مقیم منزلِ اوہام ہے یقین ابھی

﴿۸۵﴾

ابھی تو برسرِ پیکار حق سے ہے باطل
 ابھی تو سر پہ ہے طوفان، دور ہے ساحل
 ابھی تو ذوقِ ہدایت ہے طالبِ منزل
 ابھی تو پردہٴ غیبت ہے راہ میں حائل
 وقارِ حق کا ادھورا ابھی فسانہ ہے
 ابھی ظہورِ امامت میں ایک زمانہ ہے

﴿۸۶﴾

کھڑے ہیں دیر سے مشتاقِ دیدِ ڈیوڑھی پر
 کچھ ان میں اہلِ عمل ہیں کچھ ان میں اہلِ نظر
 نگاہِ شوق لگی ہے بسوئے پردہٴ در
 یہ ولولہ، کہ برآمد ہو قوم کا رہبر
 یہ لوگ لے کے کوئی التماس آئے ہیں
 جنابِ قبلہ و کعبہ کے پاس آئے ہیں

﴿۸۷﴾

مچل رہے ہیں وہ ارماں جو بر نہیں آتے
 تڑپ رہی ہیں نگاہیں، نظر نہیں آتے
 غمِ فراق سے دل راہ پر نہیں آتے
 کوئی یہ عرض تو کر دو، اگر نہیں آتے
 نگاہِ لطف سے غم کے پہاڑ کٹ جائیں
 حضورِ ایک نظر دیکھ کر پلٹ جائیں

﴿ ۸۸ ﴾

مجھے کہاں سے کہاں لے گیا بھٹک کے خیال
یہاں نجف میں کہاں! جن کے غم میں دل ہے نڈھال
یہ مرگ بے وطنی میں حسین کی ہیں مثال
عراقیوں کا وہ ماضی تھا، یہ شقاوتِ حال
وطن سے دور، مریض، اور پھر حراست میں
یہ مثلِ عالیہ یکس ہیں اس مصیبت میں

﴿ ۸۹ ﴾

کہاں غریب نے جوِ فلک سے رحلت کی
جہاں نہ اہل عقیدت، نہ تھا عزیز کوئی
سنا گیا ہے کہ آئی نہ نزع میں ہچکی
نہ مل سکا کوئی یسین پڑھنے والا بھی
یونہی یہ عاشقِ شاہِ حنین تنہا تھے
کہ بعدِ عصر کہ جیسے حسین تنہا تھے

﴿ ۹۰ ﴾

خبر نہیں ہم یں یہ بھی بہ دورِ چرخِ کہن
یہ اپنی موت مرے، یا ملی ہے مرگِ حسن
عراقیوں کے ہیں ممنون پھر بھی اہلِ زمن
کہ رحم کھا کے انہیں دے دیا ہے غسل و کفن
ہوئی تو دفنِ غلامِ شاہِ حنین کی لاش
اسی عراق میں بے گور تھی حسین کی لاش

﴿۹۱﴾

کھٹک رہا ہے یہ کاٹا نگاہِ فطرت میں
 نہ دخل تھا جو سیاست کو ان کی رحلت میں
 تو خوف کا ہے کا تھا پھر دلِ حکومت میں
 کہ لاشِ دفن ہوئی فوج کی حراست میں
 نہ بیٹیاں تھیں نہ میت پہ بیٹے پوتے تھے
 حسین اپنے غریب الوطن کو روتے تھے

﴿۹۲﴾

بہن بھی رو نہ سکی جس کی لاش پر وہ حسین
 پرانے دیس میں جو کر گیا سفر وہ حسین
 لہو سے جس کے ہے خاکِ عراق تر وہ حسین
 نسیم سب جسے روئیں گے عمر بھر وہ حسین
 وہی حسینِ پیمبر کا جو نواسا تھا
 جو قتل گاہ میں سولہ پہر کا پیاسا تھا

(نسیم امر و ہوی)

کراچی، ۱۹ جولائی، ۱۹۷۰ء